

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

پس (اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو جو کان لگا کر

بات (قول) سنیں اور اس کے بہتر پر چلیں۔ (پہا الزمر)

فتاویٰ نوار الہی

100

ارشادات

حضرت پیر نور شمس العارفین، سراج السائکین، مصدر فیض و کرم،
نجم الہدی، سلطان حقیقت، پیر منعم، سر چشمہ رشد و ہدایت، پیار بیگیاں، معدنِ جو و وسخا،
محرر اسرار الہی، سر چشمہ انوار الہی، سراج اولیا، سراج عاشقان، سراج عارفان، سراج
کاملاں، سراج اکملان، غوث الشریح و جہاں، قطب مکان و لامکان، قطب الاقطاب،
غوث الاعظم، قلندر اعظم حضرت فضل شاہ صاحب شہنشاہ قطب عالم، سری سقراطی علیہ السلام

مترجم

(حافظ محمد احمد رضا) ذہیر الاسلام فاضل قادری



مکتبہ سبب فتن

DATA ENTERED

۲۹۷۶۶۲
ف ۶۹ ف
۱۶۴۴۰

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تعداد اشاعت اول ————— ایک ہزار

قیمت ————— تین روپے

باہتمام ————— حاجی محمد ارشد قریشی ایم اے

طابع و ناشر ————— حضرت صاحبزادہ رضا حسین صاحب بلالی جمالی

کاتب ————— محمد حفیظ قریشی لاہور

پریس ————— استقلال پریس لاہور




کتبہ عرفان القدری روڈ وھرم پورہ لاہور

انتساب


حضرت پرنور سلطان العارفين، سرسراج السالكين، قطب الاقطاب، کامل اکمل
حضرت مہیاں خدیجہ صاحبہ سراج اولیاء
کی ذاتِ بابرکات کے نام جن کے لگائے ہوئے شجرے نظیر
کے فیوض و برکات سے مخلوق خدا فیض یاب ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔





فہرست

شمار	عنوان	صفحہ	شمار	عنوان	صفحہ
۱	تعارف از مرتب	۷	۱۰	بیان نفس - حضور پر نور	۸۲
۲	بیان عقیدت - از صوفی محمد زبیر صاحب	۱۹	۱۱	بیان تصور	۸۶
۳	دیباچہ انکشاف حضور پر نور	۲۱	۱۲	بیان قدم	۹۲
۴	بیان احباب	۲۲	۱۳	بیان غرض و عاقبت	۹۸
۵	بیان قادر	۳۷	۱۴	بیان مصائب المم	۱۰۵
۶	بیان نیت	۴۹	۱۵	بیان تعبیر خواب	۱۱۲
۷	بیان ایقان	۵۳	۱۶	بیان کرامات	۱۱۲
۸	بیان حقوق العباد	۵۷	۱۷	بیان ساتی	۱۱۶
۹	بیان ادب	۶۰	۱۸	بیان کسب	۱۱۷
۱۰	بیان مجالس	۶۴	۱۹	بیان اہل تصوف اہل حق	۱۱۸
۱۱	بیان عام خاص اور خاص الخاص	۶۷	۲۰	بیان تقدیر	۱۱۹
۱۲	بیان طرف	۷۱	۲۱	بیان روح	۱۲۰
۱۳	بیان عبودیت و عبادت	۸۰	۲۲	تساوی کا تقدیر سے تعلق	۱۲۱



تعارف

بہراؤں سال نرس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و در پیدا

» دیدہ و در کے تین مترام ہیں - نے نوازی، بے نیازی، پاک بازی « یہ الفاظ

اسی پاک ہستی کے ہیں جو اپنی دی ہوئی تعریف پر آپ خود شاہد ہے۔ جس کی نئے نوازی
نے گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسانوں کو گلے لگا کر ان کی عادات غیر کو خیر میں

تبدیل فرمایا اور انہیں غرض و غایت سے پاک کر کے اللہ کے فضل سے اصل باللہ

فرمایا۔ جس نے مصائبِ آلام میں گھری ہوئی مخلوق کو نہ صرف طمانیت قلب عطا

فرمائی بلکہ مصائبِ آلام کو سلامتی کا پہلو عطا کر کے صبر و شکر کی تربیت فرمائی۔ جس

کی دعا ہوتی ہے کہ الہی نہ صرف اُس کی مشکل حل فرما، بلکہ اسے اس قابل فرما دے

کہ جس کے لیے یہ دعا کرے، اُس کی بھی مشکل حل ہو جائے۔ یہ ذکر اُس ہستی

کا ہے جو بیہوشوں، مسکینوں اور غریبوں کی فریاد رس ہے۔ جس کے در سے سائل

جو لیتے آتے ہیں اُس سے سوا پاتا ہے۔ جس کی تعلیم یہ ہے کہ "سائل کا سوال

حتی المقدور پورا کرو اور ساتھ ہی اُس کا شکریہ بھی ادا کرو۔" وہ جس کے

اصولہ حسنہ نے سالکانِ راہِ طریقت کی رہبری فرما کر، انہیں الجھنوں سے پاک

اور حقیقت تصوف سے روشناس فرمایا اور صحیح راہِ فقریہ کا مزین کر دیا۔ توحید
 کے مفہوم اور برائت کے مقام سے روشناس کرایا۔ اللہ تعالیٰ سے پاک رہنا سکھایا اور
 مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم)
 سے باوجود رہنے کا شرفِ کامل عطا فرماتا ہے۔ ذکر میں مشغول رہنا اور وردِ پاک
 میں مصروف رہنا سکھاتا ہے۔ جس کی نگاہ نیم باز نہ ہو ابیرہ انسانوں کو اس
 طرح بیدار فرمایا کہ جن کی نیند صبح کی نماز کے لیے بھی نہ کھلتی تھی وہ تہجد کے وقت
 سے جاگنے لگے۔ ایسی دائمی بجاگ عطا فرمائی کہ مست خواب، بیدار اور بیدار
 محبت میں بے قرار رہنے لگے۔ جسکی توجہ عالیہ نے عبادات میں وہ خشوع و خضوع
 پیدا فرمایا کہ نماز الصلوٰۃ منہاج المؤمنین کی مصداق ہو گئی۔ جس کی نظر کھیرا اثر
 سے قلوب کثیف معصوم بچھے ہو کر تجلیات و الوار الہی کا مرکز بنتے جاتے ہیں۔ وہ
 مستحق جو نہ صرف اپنے عقیدت مندوں، بلکہ خدا کے سانس بندوں کے لیے فلاح و
 مہبود اور خیر و خوبی کی تلاش اور دستِ بدعا رہتی ہے۔ اس مقام پر حضور عوثؓ کا
 نے فرمایا ہے کہ زیادہ عورتی لوگوں سے بھاگتا ہے اور زیادہ فقیہی لوگوں کو طلب کرتا ہے
 کیوں نہ کرے کہ اس کے پاس ان کی دوا موجود ہے۔ الوار الہی کا یہ ہر شہید،
 جو دوسخا کا یہ معدن، عارفوں کا یہ آفتاب، سالکوں کی مشعلِ راہ، عاشقوں کی
 راحتِ جاں، مشاقق کی مراد برساں، ولیوں کا یہ سراجِ انیسویں صدی کے آواخر
 میں دنیا میں تشریف فرما ہوا۔ جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت فضل شاہ صاحب
 (قطب عالم، طلحہ العالی) ہے۔ آپ (حضور پرنور) کی پیدائش بالند حضرت شریف
 میں ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد پیدہ بگیریاں ضلع ہوشیار پور میں سکونت پذیر تھے بعد میں

حکمتِ ربی کے تحت جالذہری ایسے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت نبی بخش تھا۔ آپ کے والد صاحب درویشانہ اوصاف کے حامل تھے۔ اس زمانہ میں آپ کی ساری آمدن اکثر غریب نوازی مسکین نوازی اور مہمان نوازی پر خرچ ہوتی تھی۔

آپ کے والد صاحب حضرت شاہ محمد غوثؒ کے مرید تھے اور آپ (حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم مدظلہ العالی) کو حضرت شاہ محمد غوثؒ کے پاس لے جاتے تو جس وقت صاحب موصوف آپ کو دیکھتے تو گود میں اٹھا لیتے اور یہ زبانِ حال سے کہتے کہ ”یہ میرا بیٹا“ فیضی شاہ ہے۔ اسی طرح غلبہٴ حال میں بار بار فرماتے رہتے کہ ”یہ میرا بیٹا فیضی شاہ ہے، یہ میرا دل اور جسد فیضی شاہ ہے یہ میرا پیارا فیضی شاہ ہے۔“

حضرت شاہ محمد غوثؒ سے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور حسنی و حسینی ہیں اور چشتیہ خاندان کے اپنے وقت پر بہت بڑے غوث اور قطب ہوئے ہیں۔ حضرت قبلہ فضل شاہ صاحب اس وقت ابھی بچہ ہی تھے اور آپ جس چیز پر ہاتھ رکھتے حضرت شاہ محمد غوثؒ آپ کے والد صاحب کو فرماتے کہ ”یہ لے جاؤ“۔ آپ کی والد صاحب مسابہ عمر لی بی بی بھی درویشانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ بچپن میں ہی صحت ستر خوان بچھائیں تو محلے کے بچوں کو کبھی آپ کے ساتھ بٹھائیں تاکہ صغیر سنی ہی سے مہمان نوازی تو وضع اور مروت کا سبق از سر سو جائے۔

واقفِ حال بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں آپ کے چہرہ انوار پر ایک غیر معمولی سجدگی اور تمامت تھی اور پیشانی سے انوار و تجلیات کے اثرات نظر آتے تھے۔ آپ کی گفت و شنید نشست و برخاست اور چال و چال ایک غیر معمولی شخصیت کی نشاندہی کرتی تھی۔ آپ بچپن میں ہی نہایت درجہ کے خلیق اور ملسار تھے۔ بچوں کے ساتھ بہودہ

آپ کا سب لوگوں کو فرمان ہے کہ ”کوئی پوچھو۔ دین کی، دنیا کی، سب کو اجازت ہے۔“
چودہ سال کی عمر میں مستانی کیفیت کا ظہور ہوا۔ آپ خود فرمایا کرتے ہیں کہ ان دنوں
اکثر یہ دعا ہوتی تھی کہ ”زنداں خانہ مل جائے یا مست ہو جائیں۔“ آخر الذکر دعا قبول
ہوئی اور مقبول ہوئی۔ مستانی حالت میں طغیانی آگئی تو آپ باہر جنگل کی طرف نکل
گئے۔ نہ وہاں کچھ کھانے کا اہتمام تھا نہ پینے کا۔ جو میسر ہوتا کھاتے پیتے۔ اکثر کئی
کئی دن بغیر کھائے پیے گزر جاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خالق حقیقی ہی اپنے مقبول
اور محبوں کو کھلاتا، پلاتا ہے جس طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ اِنِّیْ
اِبْنُ عِنْدِ سَبِّیْطَعْنِیْ وَ سِیْقِنِیْ (مشکوٰۃ شریف) میں رہتا ہوں اپنے
رتب کے پاس وہی کھلاتا ہے مجھ کو اور وہی پلاتا ہے مجھ کو۔۔۔۔۔ اس حالت میں
آپ کے پاس صرف تین چیزیں تھیں، ایک تسبیح، ایک لوٹا اور ایک چھتری۔ آپ
فرمایا کرتے ہیں کہ دو کام اس وقت ہوتے تھے، ایک اپنے آپ کو پٹینا، دوسرے روزانہ
کسی سے ملتے نہیں تھے۔ اگر کوئی صاحب کام کے لیے آتا تو اس کو دیکھ کر دور سے
کہنا شروع کر دیتے کہ ”جانیرا کام ہو گیا اللہ کے فضل سے“ جائز کاموں کے لیے اور ناجائز کاموں
کے لیے جو مخلوق جاتی تھی نہ ان سے ملتے اور نہ ان کو نزدیک آنے دیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ
لوگ آپ کو گھر لے جاتے، ان کے دعا کرتے، وہ باہر ادھر جاتے۔ آپ مستانی عالم میں
بہت کم بولتے تھے اور جب بولتے تو جو زبان پاک سے فرمادیتے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے
فضل سے ہو جاتا۔ بارہ سال مستانی حالت میں رہے۔ ان ایام میں جو دیکھ لیتا ویوانہ اور
مستانہ ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور حضرت میاں خدابخش صاحب
کی خدمت میں پہنچا دیا۔

حضور پرنور حضرت میاں صاحب قادری سلمے کے درویش باخدا تھے۔ آپ کا
 دربار آبا و پوراہ (جالندھر) میں تھا۔ آپ چالیس سال حضور پرنور غوث الاعظم کے
 مزار اقدس پر چکر لگاتے رہے۔ آپ (حضرت میاں صاحب) کے پیرو مرشد حضرت
 احمد شرف الدین کلید بردار بغداد تھے پچاس سال کے بعد سراج ولی ہو کر آپ جالندھر تشریف
 لائے چونکہ آپ کو حکم جالندھر شریف کا ہوا تھا۔ آپ چاروں سلسلوں (قادری، نقشبندی،
 سہروردی، ادرچشتی) کی بیعت کرنے کے مجاز تھے۔ حضور پرنور سلطان اعزیز
 سراج السالکین، قطب الاقطاب، کامل اکمل حضرت میاں خدابخش صاحب سراج اولیا
 کی عمر پاک ۵۰ سال کے قریب ہوئی۔ جب آپ کی عمر سو سال کو پہنچی تو آپ نے انارج
 وغیرہ کھانا چھوڑ دیا، صرف سحری اور افطار کے وقت شربتِ یالسی کا استعمال کرتے تھے۔
 لیکن استہام کسی چیز کا نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ کا وصال ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۶۹ھ
 بروز اتوار (مطابق ۹ جولائی ۱۹۵۰ء) بمقام اوکاڑہ ہوا۔ اور آپ کا مزار اقدس
 منگھری پیرنجاری قبرستان میں ہے جو مرجع عام و خاص ہے۔

آپ حضور پرنور حضرت میاں صاحب کی حضور سی میں سہ ماہ وقت سرنالہ بیٹھے
 رہتے۔ بے شمار خلقت یہاں آتی، آپ کو خاموش دیکھ کر لوگ حضور پرنور سے فرماتے
 کہ ”اس بچے کو کبھی بولتے نہیں دیکھا۔“ حضور پرنور حضرت میاں صاحب فرماتے کہ
 ”یہ بچہ اپنے وقت پر بولے گا اور اس وقت کائنات میں اس کا جواب نہیں ہوگا۔“ وہ علم الہی
 ناظرین اور سامعین کے سامنے ہتے تاکہ اس سے مخلوق خدا پوری طرح استفادہ
 کر سکے۔

حضور پرنور حضرت میاں صاحب، صاحب وقت، قطب عالم، سراج اولیا

اپنے زمانہ کے معروف کہنجی تھے۔ حضور پر نور حضرت میاں صاحب کا ایک ایک
نقطہ قیامت تک اودیانی کا مقام رکھتا ہے۔

آپ (حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب) ۱۴ سال حضور پر نور حضرت
میاں صاحب کی خدمت میں رہے۔ وہاں سے چار انعام عطا ہوئے۔ قول کا
انعام عطا ہوا، اعمال کا شرف عطا ہوا، علم کا تصرف عطا ہوا اور خلاص اللہ تعالیٰ

کی طرف سے حسن کی صورت میں اترنے لگ گیا ہر مقام پر۔ بعد ازاں حضور پر نور
کی اجازت سے آپ اپنے رحمت خانہ میں تشریف لے آئے۔ مخلوق آپ کی طرف
رجوع کرنے لگی۔ اس زمانہ میں جلال کا اثر لوگوں کے قلوب پر حاوی تھا۔ لوگ
موقع محل دیکھ کر بات کرتے اور محنت رات کرتے۔ آپ کی محفل میں اکثر یہ حالت رہتی
تھی کہ ان گنت مست ہو جاتے اور ان گنت سرمست ہو جاتے۔ ہر وقت دیوانوں
اور مستانوں کا میلہ لگا رہتا۔ اس زمانہ کے مشہور مست حضرت ہر دم صاحب ہیں جو
آج کل بھی مستانی حالت میں ہیں، حضرت ہر دم صاحب نے آپ کی شان میں بہت
کلام کہا ہے۔ ان کی ایک نظم جس کا تعلق اس بیان سے ہے۔ قارئین کے لیے
تحریر ہے۔

فضل شاہ قطب عالم کا عجب جاری ہے بیجانہ

پینا ہو جس نے پی لے وہ ہر دنگی لے کا پیمانہ

کرے ہے مست ایک سال میں نہیں ہے دیر گھنٹہ

پاک میں چور دیکھا جھڈک میں درجہ قطبانہ

جو پیدا تھے جو پیدا ہیں سمجھی ہیں ان کے طلبانہ

جو عاشق شاہ جیلاں ہو وہ دیکھے ان کا چہرہ نہ

ہر دم نے صاف دیکھا ہے عجب ان کا کرشمہ نہ

نظر بس ایک سے طالب کو پار کر دینا

اپنے سامنے مخلوق بہت سے ایسے بچوں کو لاتی جو لا علاج مرض میں مبتلا ہوتے

اور قریب المرگ ہوتے۔ آپ اس بچے کے ہر پردہ شفق پھیرتے اور ساتھ ہی

اس بچے کا نام تبدیل کر دیتے اور گھر والوں سے یہ خطاب ہوتا کہ تمہارا جو بچہ تھا وہ

بزرگان دین نے لے لیا اور اپنا سزا دہشت بچہ تمہیں عنایت کر دیا اللہ کے فضل سے۔

وہ بچہ اسی وقت صحت یاب ہونے لگا جاتا اور سزا دہشت ہو جاتا۔ اب حال پر بھی

یہی ہو رہا ہے۔

قریباً ۴۰ سال کی عمر میں جا کر متاہلانہ زندگی اختیار کی۔ اولاد بھی ہوئی جس

میں چار صاحبزادے اور ایک صاحبزادی بقید حیات ہیں، سب سے بڑے صاحبزادے

عبدالرزاق المعروف برضا حسین ہیں۔ حال پر آپ کو رضا حسین بھی کہتے ہیں اور عبدالرزاق بھی کہتے

ہیں۔ خطابی نام آپ کا عبدالرزاق بلالی جمالی ہے۔ آپ کو دو خاندانوں سے فیض عطا ہوا۔ آپ

حضرت مولوی محمود حسین صاحب کے مرید ہیں اور ازادت حضرت قبلہ فضل شاہ صاحب قطب عالم

مدظلہ العالی سے ہے دونوں خاندانوں سے آپ کو تعلق اور ازادت ہے اور دونوں خاندانوں

فیض لیتے اور دیتے ہیں اب حال پر آپ سے چھوٹے صاحبزادے حضرت مقبول الہی صاحب

اور ان سے چھوٹے حضرت مست فدا الہی صاحب سب سے چھوٹے صاحبزادے کا اسم گرامی

حضرت علی محمد صاحب ہے۔ سب کا آپ کے اخلاق حسنہ کے جامع ہیں۔

برصغیر کی تقسیم کے بعد آپ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے۔ آتے ہی ماہوں کا بھن (تخصیص سمندری ضلع لائل پور) سکونت اختیار فرمائی۔ پھر آپ کے عقیدتمندوں نے مخلوق خدا کی بہتری اور فلاح کے لیے لاہور اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں عارضی مستقر بنا دیئے۔ تمام شہروں سے آپ کے عقیدت مند جوق در جوق آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ حضور! ہم سے علاقہ کو بھی قدم مہینت لزوم سے مشرف فرمائیں اور مخلوق خدا اس چشمہ فیض سے فیض یاب ہو۔ دین و دنیا کے انعامات انہیں عطا ہوں۔ اب حال پر آپ سے مخلوق، دین کا بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور دنیا کا بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ کے دربار پر جزد کی بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ جنہذا عظیم کی بھی تقسیم ہو رہی ہے اور کُل کی بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک ہی تقسیم ہو رہی ہے عام کے ساتھ۔ خاص کے ساتھ اور خاص الخاص کے ساتھ۔

جو مصائب آلام ہیں گھری ہوئی مخلوق آپ کے دربار پاک پر حاضر ہوتی ہے۔ ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں ان کی مشکل حل ہو جاتی ہے اور اس قابل بنایا جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ دعا کریں ان کی بھی دعا قبول ہو۔ جو مسائل جس کام کے لیے بھی آئے یا مراد ہو کر جائے۔

آپ رات کے ۲ بجے ہی بخیر کے لیے اٹھتے ہیں اور تمام محبتیں بھی آپ کے ساتھ اسی معمول سے اٹھتے ہیں۔ نماز تہجد ادا کی جاتی ہے۔ سورہ نزل کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شجرہ شریف قادریہ فاضلیہ، اسمائے غوث الاعظم اور ورد و تاج و صلوات و سلام پڑھا جاتا ہے۔ چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں۔ کہیں بھی ہوں۔ یہ عمل جاری ساری رہتا ہے۔ آپ کا باب فیض ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ آپ نے اپنے لیے کوئی

وقت نہیں رکھا جو سائل جس وقت آئے مراد پائے۔ دن رات میں بیشتر وقت نصیحت
 خلق میں گزارتے ہیں۔ کھانے پر کتنے ہی لوگ جمع ہو جائیں۔ سب کو کھانا اپنے ہاتھ
 سے کھلاتے اور خود تقسیم کرتے ہیں۔ آپ خود سب سے آخر میں کھاتے ہیں۔ اپنے
 لیے کوئی علیحدہ اہتمام نہیں ہوتا۔ وہی کھاتے ہیں جو اوروں کو کھلایا جاتا ہے۔ سادہ
 لباس پہنتے ہیں۔ کوئی حاجت مندا آئے بے مراد نہیں لوٹاتے۔ آپ کے ہر
 فعل میں آپ کی بول چال میں سنت نبوی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسوہ حسنہ کے
 کمال جامع ہیں۔ قدرت نے آپ کو اخلاقِ کریمانہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے بہرہ ور کیا ہے۔ آپ بڑے تحمل مزاج،
 مخلوقِ خدا پر مشفق، خلیق، منسار، صاحبِ عزم، بلندِ حوصلہ، پیکرِ صبر و شکر ہیں۔
 جو ایک دفعہ آپ سے مل لیتا ہے دوبارہ ملنے کی آرزو کرتا ہے۔ کوئی کتنی ہی رشتی
 سے پیش آئے۔ آپ نرمی سے جواب دیتے ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس
 کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ سلام کی ابتدا خود کرتے ہیں۔ بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں

پر شفقت فرماتے ہیں۔ ضعیفوں، مسکینوں اور غریبوں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس مقام
 پر حضور پر نور حضرت غوث الاعظم کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں۔ "ایک دفعہ آپ نے فرمایا
 کہ فرائض کے بعد جب یہاں آجھے کاموں پر غور کرتا ہوں تو محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانے
 اور عام و خاص کے ساتھ خوش خلقی سے برتاؤ کرنے سے بہتر کسی کام کو نہیں پاتا۔ آپ
 کا یہی حال پر یہی مقام ہے۔ جو پاس ہوتا ہے سب غریبوں، مہمانوں پر خرچ کر دیتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کفیل ہے اپنے پیاروں کے لیے۔"

دنیا میں دو قسم کے طبیب آتے رہتے ہیں ایک طبیب جسمانی، دوسرا طبیب روحانی۔
 اکثر یہ دونوں مقام اکیلے اکیلے رہتے ہیں۔ جس بندے اپنے پر اللہ تعالیٰ انتہائی
 کرم کرتا ہے اس پر یہ دونوں مقام آجاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
 دونوں انعاموں کے جامع ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا محبوب کی بدولت ہے۔ جو
 مریض لا علاج مرض میں مبتلا ہوں۔ آپ کا دستِ شفا لگنے سے وہ شفا یاب ہو
 جاتے ہیں۔ یہ واقعات اکثر دیکھنے میں روزانہ آتے ہیں۔ آپ جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
 کے حکم سے فرماتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں سے

گفتہ او گفتمہ اس شربہ و گرچہ از حلقوم عبدالعزیز بود

آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم الہی عطا کیا ہے۔ آپ جو زبانِ پاک سے فرماتے
 ہیں اس کا بدل کائنات میں نہیں۔ کیونکہ بزرگانِ دین کتابِ شنید سے نہیں ہیں۔ کتابِ
 شنید بزرگانِ دین سے ہے۔ ہم شنید کے ساتھ ہے خاص کتاب کے ساتھ ہے
 اور خاص الناحیہ ام الكتاب کے ساتھ ہے۔ اور ام الكتاب اللہ تعالیٰ امی کو عطا فرماتا
 ہے تاکہ مخلوق یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا کتابِ شنید سے بول رہا ہے۔

عام اور خاص کوگ پر بھی ہوئی اور سنی ہوئی بتاتے ہیں۔ بزرگانِ دین اس لیے
 آئے ہوئے ہیں کہ جو ان پر عطا ہو رہی ہے حال پر، وہ عطا کرنے کے لیے آئے ہوئے
 ہیں۔ اس عطا سے پورا پورا فائدہ اٹھالینا چاہیے۔

آپ جو فرماتے ہیں ایک ایک حرفِ اولیائی کا مقام رکھتا ہے اور ایک ایک جملہ پر
 کتاب بن سکتی ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں آپ کے ارشاداتِ
 عالی ہیں جو آپ نے وقتاً فوقتاً مجلسوں میں ارشاد فرمائے۔ جو صاحبِ صداقت

کی آنکھ سے دیکھے گا، دنیا میں وہ کامیاب ہوگا اور دین میں باسرا ہوگا۔

اس کتاب میں آپ کے ۲۸ بیان میں انشاء اللہ آئندہ اشاعت ہیں اور شائع کیے جائیں گے۔ اس کے تاریخی نام اور مقامی نام یہ ہیں۔

(۱) وَهُوَ الْعَفْوَصُ الْوَدُودُ

(۲) حُرُوقَةُ الْحَيَاةِ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ هَادِيَةٌ

اللہ تعالیٰ نے سب صاحبوں کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے کی توفیق عطا فرمائی اور بزرگان دین کا ساتھ ساتھ رکھے اپنی رحمت سے آمین ثم آمین۔ وَقَالَ فَيَقُولُ لَا بَأْسَ بَدَنِي

نظام الغفران احقر (حافظ محمد رضا) نذر الاسلام فاضل قادری

تیار شدہ جنوری ۱۹۶۴ء بمطابق ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ بروز جمعہ المبارک

نوٹ: ان بیانات میں تیسری (۳) میں ہر جگہ الفاظ مرتب کی طرف اشارہ ہے۔

سے ہیں۔ ہر بیان ایک مسلسل مضمون ہے۔ فقرہ بندی مرتب کی طرف


سے ہے۔ معمولی نظر کی خاطر کی گئی ہے۔

(نذر الاسلام)

بدریہ عقیدت از حضرت صوفی محمد زبیر صاحب امام العارفین (چہرہ شریف) لاہور

حضور پر نور کی ذاتِ گرامی کی نظرِ لطفِ کرم مدتِ دید کی تحتِ لشرعے میں مستغرق کشتیوں کو فتنے و فحور کے بھونڈے سے نکال کر مسائلِ مراد پر پہنچا دینے کا موجبِ ذریعہ ہے۔ حضور پر نور سلطانِ حقیقت کی نظرِ کیمیائی قلوبِ کثافتِ اولوہ کو آن واحد میں صفا کر کے مثلِ آئینہ بنا دینے کا سبب و وسیلہ ہے۔ حضور کی نظرِ انفات جن خوش نصیب لوگوں پر صرف فرمائی ہے۔ وہی دلِ سلیم و مطمئنہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور وہی ہستیاں تمیز و نمایاں سیرت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ جو قبل ازیں فتنے و فحور میں ٹھٹھری پھڑکی جیسا کہ انسانیت بجا انسانیت سوز حرکات کی ہمہ وقت ترکیب ہوتی رہتی تھیں۔ حضور پر نور کی توجہ ثانی عبادت میں خضوع و خشوع پیدا کر کے ایمانِ ناقص کو ایمانِ مقوی و مستحکم میں بیک ساعیت تبدیل کر دیتی ہیں۔ حیوانیت سے انسانیت پیدا کر کے واصلِ با اللہ کر دینا حضور کے فیضانِ صحبت کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے اور روحانی خشک کھاتی کو ان دھریں مہر سبز و شاداب کی دنیا حضور کی قوتِ افادہ کا نام ہے۔ حضور پر نور معدنِ وجود و سخا کی نظرِ عنایتِ مجددہ بھی کرم کا امانہ کرتی ہے اور وہی سے سحری کے وقت مالکِ حقیقی کی خوشنودی کے حصول کی خاطر ذکر میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ اس چشمہ فیضِ امتناسی سے جس کسی نے بھی ایک دھک گھونٹ پی لیا وہی مشابہتِ صفاتِ ربانی کی لطف اندوزی میں نہمک ہو گیا۔ حضور کی ذاتِ گرامی ایسی رسگاہِ فیوضِ عام ہے جس سے ظالم بیانیوں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کی تزیینتِ تکلیف و بندوں کی ایذا رسانی پر عقو کرنے کا حوصلہ اور ان کے حق میں دعا کرنے کی نیرازی کا شکریہ بھی ادا کرنے کا درسِ نایاب ملتا ہے۔ مزید برآں مسائل کے سوال کو حتی المقدور بجا کرنے کے بعد اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے کی رغبتِ لاشعور ملتی ہے۔ لہذا استدعا ہے کہ جملہ قارئین حضرات اس بحرِ ناپیدا کنارے سے چلو دو چلو ہی بھر کر پی لیں۔ تاکہ فلاح نصیب ہو۔

دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا اس چشمہ فیضِ رحمانیت پر پہنچ کر مستفیض و مستفید ہو سکے اور اس مردِ عمار کی توجہ سے ایمان کے پودے کے گرد جو خورد و جڑی بوٹیاں، کبیر و حرد، حرم و ہوا، حبتِ جاہ و حشمت، اکتسابی غیرت، آگ کی میں نیست و نابود ہو جائیں اور اصل ایمان کا پودا مقوی اور مستحکم ہو کر با با اور ہو سکے۔ (آمین ثم آمین)



ویاچہ انکشاف

سب تعریف اللہ کی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ (سب تعریفیں اور خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا) حمد اُس رب کی جو تمام عالموں کا رب ہے۔ پالنے والا۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ "جو رحمن اور رحیم ہے" جس طرح اللہ تعالیٰ رحیم ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے رحیم رہنا چاہیے۔ جو صاحب رحیم رہیگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا جائیگا۔

تَمَّالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ (روزِ جزا کا مالک) مالک یوم کا ہوگا۔ یوم سے دن مراد ہے۔ حال پر دن عارف کا۔ اللہ تعالیٰ کو صورت کے اعتبار سے دیکھا جائیگا اور معنوں کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے۔ دن یوم میں صورت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائیگا۔ اور معنوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائیگا۔ خلق اللہ سے اللہ تعالیٰ کے معنی موجود ہیں اور صورت کے اعتبار سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں ہے۔ مقام دو میں نمازیں۔

ایمان اول۔ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں

ایمان و دم۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔

اسی مقام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ“ مومنوں کو نماز میں معراج ہو رہا ہے۔

نماز شریعت۔۔۔۔۔ پانچ وقتی

نماز طریقت۔۔۔۔۔ سات وقتی

نماز حقیقت۔۔۔۔۔ ہر وقتی

پنج ویلے۔۔۔۔۔ ست ویلے۔۔۔۔۔ ہر ویلے

نماز طریقت۔۔۔۔۔ تہجد اور اشراق
اس نماز (نماز تہجد) کے لیے محبت
جس وقت اٹھتا ہے۔۔۔۔۔

اپنے لیے نہیں اٹھتا، محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے اٹھتا
ہے۔ اس عمل سے خوشنودی اللہ تعالیٰ کے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پائی
جاتی ہے۔ محبت صورت کے اعتبار سے بھی محبوب کے ساتھ ہے اور معنوں کے
اعتبار سے بھی محبوب کے ساتھ ہے۔

محبوب کی صورت کیا ہے۔۔۔۔۔؟ رات کو اٹھنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
کے لیے صورت کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے۔ صورت کے اعتبار سے
دیکھنا اللہ تعالیٰ کو اور معنوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا محبوب کو۔ کیونکہ
محبوب محبت کو دیکھتا ہے اور محبت محبوب کو دیکھتا ہے۔

نماز حقیقت
ہر وقت با وضو رہنا محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے
اور پاک رہنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

محبوب کے لیے اور درود پاک کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔

بزرگانِ دین فرماتے ہیں مخلوق خائنہ اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے ہو کر رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سلوک کرنا یہ حسن ایمان ہے۔ سلوک یہ سالک کا مقام ہے۔

آيَاكَ نَعْبُدُ وَايَاكَ نَسْتَعِينُ - (ہم تیرے بندے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں)

الہی! میں تیرا بندہ ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ بندے کی تعریف کیا ہے؟ "اللہ" ماسوا اللہ سے بندہ اُس کا اور کچھ نہیں چاہتا۔ جس بندے کا یہ مقام ہوگا اللہ اُس کا ہوگا اور وہ اللہ کا ہوگا۔ چلنا پھرنما، کھانا پینا، سونا جاگنا، رہنا اور بیٹھنا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ لینا اور دینا یہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ انسان کے وجود میں دو مقام ہیں دانا اور منگتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی دانا ہو جاتا ہے۔ اور معنوں کے اعتبار سے بھی دانا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں صاحبو! سوال مت ہو جواب ہو۔

بزرگانِ دین فرماتے ہیں۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ بندے کا ہو جاتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ ہر وقت پاک رہے اللہ تعالیٰ کیلئے اور ہر وقت با وضو رہے محبوب کے لیے (صلی اللہ علیہ وسلم)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

الہی! ہم کو سیدھے راستہ پر چلا۔ راستہ اُن کا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا۔
 سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا۔
 راستہ انعام والوں کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
 صفت ڈینا کرنا اور درود پاک پھینکا۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - (امین)

"نہ اُن کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا" (قبول کر)

بزرگانِ دین فرماتے ہیں، غضب کن پر ہوا۔ جن جن چیزوں سے منع کیا ہے
 اُن اُن چیزوں سے منع نہ رہنا۔ اس کے معنی غضب ہیں۔ کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ
 کا ہے۔ "منع، مقام نہیں"۔ امر کے تابع رہنے کے معنی انعام والوں کے نکلتے ہیں۔
 محبت جو منع کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اُن سے منع رہتا ہے۔ اور جن چیزوں
 کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں کار بند رہتا ہے۔

ناظرین صاحبوں کو یاد رکھنا چاہیے اور سامعین صاحبوں کو نوٹ رکھنا
 چاہیے۔ کوئی لفظ کوئی فقرہ یا کوئی عبارت نہ جان سکے، جسے، سب سے پہلے
 اپنے آپ کو جانا چاہیے۔ کیا جانا چاہیے؟ جس جس مقامات کا علم نہ ہو
 حقیقتاً ابھی وہ تمام نہیں آیا ہوا۔ سالک کو جان لینا چاہیے جسے جانتا ہے
 اُسے تو جانتا ہے جسے نہ جانے حال پر اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑوے۔ اللہ تعالیٰ
 جس وقت علم عطا فرمائے گا تو پھر یہ جانا جائے گا۔ ناظرین کو اسی جستجو میں لگے
 رہنا چاہیے۔ اس کتاب کے ہر لفظ کو صداقت کی آنکھ سے دیکھے۔ جہاں بھی
 جو صاحب الجہا ہوا ہوگا۔ اسی راہ و روش سے وہ تمام الجھنیں نکل جائیں گی۔

دوری چلی جائے گی اور حضوری کا شرف عطا ہو گا۔ فقیر (حضرت قبلہ فضل شاہ صاحب قطب عالم مظللہ العالی) کا اپنا ذاتی اور صفاتی کوئی زیر زبر لفظ نہیں ہے۔ یہ سب امور صداقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا ہی ہے۔ سچے پیروی جلوہ گری کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا کلام سچے کا بھی شاہد ہے اور کچھ کا بھی شاہد ہے جو اس کتاب کا لفظ، زیر، زبر نہ جان سکے قرآن کریم کے مطابق یا حدیث پاک کے مطابق، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر جاننے کے جو صاحب عمل کرے گا وہ اپنے عمل کا آپ ہی ذمہ دار ہوگا اور خود ہی جوابدہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے رحیم ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کریم ہے۔ حاضر وقت بزرگان دین صاحب دین ہیں۔ مومن کی شان ہشان تسلیم ہے۔

تسلیم کیا ہے؟ بغیر جاننے کے ماننا۔ حکم میں اللہ تعالیٰ نے جاننے کی شرط ہی نہیں رکھی۔ اسی لیے محبت اپنی کوئی صورت نہیں رکھتا محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) سے نہ ذاتی اور نہ صفاتی۔ جس صاحب کی یہ صورت ہو پیا رو! اس پر رنگ چڑھ جاتا ہے "رنگ شہودی"۔ جس صاحب پر رنگ شہودی چڑھ جاتا ہے اس کی کثافت کی سب صفتیں چلی جاتی ہیں اور لطافت کی صفتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ اربعہ عناصر سے گزر جاتا ہے۔ عشق سے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ایسے سچے عشق کو عشق ترکیا جاتا ہے۔ عزیز کا مقام عطا ہو جاتا ہے۔ سچے صاحب

کی تمام صفتیں جلوہ گرمی کرنے لگ جاتی ہیں۔ جس میدانِ عمل میں یہ شانِ نزول ہو رہا ہو۔ غیر جھانکتا رہتا ہے ہر مقام پر۔ جب وہاں کوئی مجلس (قابلہ) نہیں چلتا تو جھانک کر مجھے ہٹ جاتا ہے۔ مر جاتا ہے۔ سالک کو کسوٹی عطا ہو جاتی ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جلوہ گرمی کرنے لگ جاتا ہے۔

صاحبِ اہان لینا چاہیے عمل کو فضیلت نہیں ہے۔ رخ کو فضیلت ہے۔ حکم کو جاننے میں فضیلت نہیں ہے ماننے میں فضیلت ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کو فضیلت ہے۔

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ بزرگانِ دین کے آنے کا منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو غرض و غایت سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ داخل کرنا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے طیب کرنا اور مجالسِ محمدی میں باریابی حاصل کرنا۔ طالبِ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پاک رہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با وضو رہے۔ جو انسان غرض و غایت سے پاک ہو جاتا ہے وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو صاحبِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے با وضو ہو جاتا ہے اسے مجالسِ محمدی عطا ہو جاتی ہیں۔ قریب آ جاتا ہے دوری چلی جاتی ہے۔ قول سے بسم اللہ ادا ہونے لگ جاتی ہے اور اعمال سے بسم اللہ کا شرف عطا ہو جاتا ہے۔

وَعَا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے غیر سے دور رکھے اور صاحبِ امر کے قریب کر دے۔ غیر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور در پر رہنے کا شرف عطا فرمائے۔ امین ثم امین

عام مخلوق کی بنیادِ اربعہ عناصر سے ہے۔ خاص کی بنیاد، مسلمان کا ہاتھ امین

ہوا اور زبان برائی سے پاک ہو۔

خاص انخاص کی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہے اور محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت با وضو رہے۔

عشق کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہنا۔ جو ہر وقت پاک

رہیگا۔ عشق اُس کو عطا ہو جائیگا اور اُس کی بنیاد عشق سے رکھی جائے گی۔ عشق کو عشق
ترکیا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اخلاص سے نہلایا جائے گا۔ شہادت کا رنگ
چڑھایا جائے گا۔ "رنگ شہودی"۔ صدق کا پانی دیا جائیگا۔ خوشنودی کی ہوا
دی جائے گی۔ پالنے کی گود ملے گی۔ حلیم کا مقام عطا ہو جائے گا۔ لوں لوں
میں نور چھایا جائیگا ازل کے ارادے سے۔ محو کرنے کے لیے خمر عطا کی جائے گی۔
ظہور کا نشہ چڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں افضل بھی وہی ہو گا۔
اطہر بھی وہی ہو گا۔ اکمل بھی وہی ہو گا اور انور بھی وہی ہو گا۔ حضرت آدم علیہ السلام
کو نوازا، آدم سے اہر شے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی اور محبوب کو اپنے
لیے پیدا کیا۔

حال پر فقیر (حضور پرنور حضرت فضل شاہ صاحب۔ قطب عالم مظللہ العالی)
کو دوست مدت مدید سے گفت و شنید کرتے رہے۔ یہ کلام جو حال پر ہو رہا
ہے۔ یہ حقیقتاً کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کیونکہ
فقیر (حضور پرنور) علم کسب نہیں رکھتا۔ جو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ اللہ کے
حکم سے فرماتے ہیں :-

جو صاحب علم کسب جاتا ہو اُسے صرف مشاہدہ ہوتا ہے۔ جو علم

کب نہ رکھتا ہو اُسے مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور اُس کے لیے عبارت
 بھی اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اُمّی کے لیے۔ مشاہدہ اور
 عبارت دو مقام ہیں۔

تیسرا مقام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سامنے ساری کائنات کا ذرہ

ذرہ پیش نظر کر دیتا ہے اور حکم ہوتا ہے، پیاسے مشاہدہ کر لے۔ اس کا بدل
 ساری کائنات میں نہیں ہے۔ فقیر کا نقطہ، زیر، زبر اور لفظ کوئی اپنا نہیں ہے
 نعمت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ نعمت کا شکر یہ ادا کرنے کی توفیق
 عطا ہوتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ہر شان نزول کے مطابق۔ شکر یہ قول سے
 قول کا، اعمال سے اعمال کا، علم سے علم کا اور اخلاص سے اخلاص کا اللہ تعالیٰ
 بڑا رحیم ہے اپنے بندوں پر۔

جس وقت سب دوست گفت و شنید کرتے تھے۔ مدت مدید سو چکنے
 کے بعد بزرگان دین (حضور پر نور) نے سب دوستوں کو فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ
 کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ رکھو والا اور محافظ ہے اس کلام کا۔ اللہ تعالیٰ رکھنا چاہیگا
 تو اس کلام کو رکھنے والا مقرر کیا جائیگا حال پر۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت صوفی محمد زبیر صاحب اچھرہ شریف (لاہور) امام العارفین
 کو مقرر کیا۔ امام العارفین (حضرت قبلہ صوفی صاحب) چھ مہینے تک کلام
 خلوت میں جمع کرتے رہے جو جلوت میں ہو رہا تھا۔ چھ مہینے کے بعد فقیر (حضور
 پر نور) سے سب دوستوں کی طرف سے اجازت چاہی جلوت میں انکشاف کرنے
 کی کہ گویا بی عطا کی جائے۔

بزرگان دین (حضرت پرنور) نے فرمایا کہ جس جس شہر میں دورہ ہوگا۔ بزرگان دین کا، جو جو کلام ہوگا وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا۔

امام العارفين (حضرت صوفی صاحب) جمع کرتے رہے۔ حضرت غلام نبی صاحب حال پر لکھتے رہے۔ حضرت حافظ محترم نذر الاسلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ مشاہد کے شاہد بن گئے۔

پاکستان کے تمام شہروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے حساب ولی اور اولیاء ہر وقت با وضو رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرتے ہیں اور درود پاک میں مصروف رہتے ہیں۔ حال پر اللہ تعالیٰ نے فقیر (حضرت پرنور) کو یہ شرف عطا فرمایا۔ یہ کل کی انتہا ہے۔

پاک۔ بلند۔ شرف۔ ابتدا۔ رخ اور گمان نیک۔ رخ۔ محبوب کا رخ یہ پانچوں مقام کل کے ہیں۔ جس وجود شہود کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ مقام عطا کر دیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل ہے۔ کل کے یہ پانچوں مقام جسے عطا ہو جاتے ہیں وہ کل سے کل ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ محبوب اس کی شان سے جس کا یہ بیان ہے۔ پروردگارا! اور بھی آسانی عطا فرما۔ کریما۔ کرم کر اور ہر مقام پر مدد کر۔

الہی! میں تیرا بندہ ہوں اور نیری مہربانی کا امیدوار ہوں۔ حضرت پرنور صلی اللہ علیہ وسلم آقائے گرامی ہر شے کی نشانی اور ہر حال میں محبوب پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ آقائے نعمت، معدنِ جو دوسخا۔ ہر چشمہ الٰہی، ہر مقام پر فیض و کرم۔

محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور محبوب
 کی خاطر ساری کائنات کو بنایا۔ کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور
 محبوب کو اپنے لیے۔ اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
 کو چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ہمیں بھی چاہنا چاہیے تاکہ ہم بھی
 چاہے جائیں۔

حضور پرنور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پرنور کے آل و
 اصحاب پر درود و سلام ہو۔ فقیر (حضور پرنور حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم
 مظلوم العالی) نے طلبکارانِ راہِ حق کو نسیان مند بنانے کے لیے اس کتاب کا نام
 "فاضل النوار الہی" رکھا۔

(حضور پرنور) فضل شاہ قطب عالم
 (مظلوم العالی)

(ب)

بیانِ احباب

حضرت خلیفہ محمد یوسف صاحب سراج اولیا، حضرت مولانا محمود حسین صاحب سراج اولیا، حضرت نیاز احمد ہر دم صاحب سراج اولیا یہ کم سنی ہیں ہی سب اللہ والے ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ حضرت ہر دم صاحب اور حضور پرنور فضل شاہ صاحب قطب عالم مظللہ العالی ایک ہی جگہ کھیل کھیلتے رہے۔ حضرت ہر دم صاحب نے حضور پرنور کا نام نامی کمسنی میں ”دورانڈیش“ رکھا اور سب نیچے حضور پرنور کو دورانڈیش کے نام سے پکارتے تھے۔ خلیفہ محمد یوسف صاحب نے دور دراز کا چکر لگا کر سب لیڈوں، غوثوں، قطبوں اور ابدالوں کے ساتھ میل جول کیا۔ میل جول ہونے کے بعد جب حضور پرنور سے میل جول ہوا تو آپ نے بیان دیا کہ :-

”صاحبو! سنو! حضور پرنور کو اب حال پر اللہ تعالیٰ نے جزو کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ جزو اعظم کا مرتبہ عطا کیا ہے اور کل کا مرتبہ عطا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھالینا چاہیے۔ حضور پرنور کے وہ بات کسا ایک ہی عطا ہوئی عام کے ساتھ، خاص کے ساتھ اور خاص الخاص کے ساتھ۔ حال پر ایک ہی عطا ہو رہی ہے سب کے ساتھ۔“

حضرت خلیفہ محمد یوسف صاحب کو مشاہدہ ہوا کہ :-
 ”جزو اور جزو اعظم ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کل صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے عتابیت ہوتا ہے۔ اور اب حال پر کل آیا ہوا ہے۔ کل
 کی تقسیم ہو رہی ہے۔ عام سے۔ خاص سے اور خاص الخاص سے ایک
 ہی تقسیم ہو رہی ہے۔“

اولیائے کرام، حضور پرنور حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم مظنۃ العالی
 کے نام سے بلاتے ہیں۔ سرسراج دلی آپ کو میاں فضل کریم کے نام سے بلاتے ہیں۔
 غوث آپ کو غوث الاعظم کے نام سے بلاتے ہیں۔ قلندر آپ کو قلندر اعظم کے
 نام سے بلاتے ہیں۔ دانا آپ کو دانا گر کے نام سے بلاتے ہیں۔ دلیوں کا فرمان
 ہے کہ آج تک سب دانا ہی آتے رہے ہیں اب دانا گر آیا ہوا ہے حال پر۔ اسی
 طرح اولیاء، دلی، غوث، قطب اور ابدال اپنے اپنے مرتبہ اور مقام کے مطابق
 حضور پرنور کو بلاتے اور اپنے اپنے مرتبہ و مقام کے مطابق فائدہ اٹھاتے۔

حضور پرنور کی حالت کمسنی سے لگا کر اب تک یہی رہی ہے۔ اللہ کے فضل و
 کرم سے جو سائل جس کام کیلئے آیا۔ مراد سے کر گیا۔ سائل جو لینے آیا اسے وہ بھی ملا
 اور اس کے سوا بھی ملا۔ آپ کے دربارِ غوثیہ پر جو آتا اسے اس قابل بنا کر
 واپس کیا جاتا کہ جس کے لیے وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کی بھی
 دعا قبول ہو۔ ہر وقت فیض کا دربار کھلا رہتا ہے۔ تاہم آپ نے عام کے لیے
 رکھا ہے خاص کے لیے رکھا ہے اور خاص الخاص کے لیے رکھا ہے حضور پرنور
 نے اپنا کوئی نام نہیں رکھا جس وقت سائل آئے اسی وقت مراد پائے۔ غوث الاعظم

کے در سے دنیا کے لیے شفا ہو رہی ہے اور دین کے لیے عطا ہو رہی ہے۔ مریض و قسم کے ہیں جسمانی مریض اور روحانی مریض۔ دونوں مقاموں پر ہی عطا ہو رہی ہے۔ بارہ سال تک حضور پر نور متسانی حالت پر رہے۔ حضور پر نور کے جذب کی یہ حالت تھی کہ حال پر جس مردہ کو دیکھتے وہ مردہ اللہ کے فضل سے زندہ ہو جاتا۔ اور جو بے حقیقت آتا حقیقت دیکھ کر حضور پر نور کے دربار سے فیض پاتا۔ بزرگان دین نے فرمایا۔ بے حقیقت مردہ ہے اور با حقیقت زندہ ہے۔ بے حقیقت روحانی مریض ہوتا ہے۔ مرض جن صاحبوں کو لاحق ہو جاتی ہے وہ جسمانی مریض ہوتا ہے۔ حال پر عارف والا (ضلع شکرگڑی) میں حافظ محمد حسین صاحب ہیں۔ جو جہان فانی سے گزر چکے تھے اور ایک می لڑکا تھا جو دھری تہی بخش کا۔ اُس کے گزر جانے پر تلاش کر کے نعش پر لے گئے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا۔ ”یہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے۔ اسے سماع سنائی جائے۔“ سماع سنائی گئی، وہ اللہ کے فضل سے زندہ ہو گیا۔ آپ کی کرامات (ارادت انلی) کا یہ حال ہے کہ جو سائل اولادِ نرینہ کے لیے آتے ہیں۔ نیچے کا نام سال پیدے۔ دو سال پیدے۔ تین سال پیدے اور چار سال پیدے رکھا جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ سچے عطا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان گنت نیچے سائے پاکستان میں موجود ہیں۔ زبان کو پاکی کا خطاب اللہ تعالیٰ نے آنا بڑا عطا فرمایا ہے۔ جو بات حضور پر نور کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں منظور ہو کر فوراً عطا ہو جاتی ہے۔ آپ کی نگاہ پاک کا یہ اثر ہے جس کو متسانی نگاہ سے دیکھتے وہ منساہ اور دیوانہ ہو جاتا۔ آپ کی محفل میں اکثر یہ حالت رہتی تھی۔ ان گنت دست تھے اور ان گنت ہرست بھی تھے۔ ہر وقت میلہ لگا دینا

ہے۔ دربار پر دیوانوں اور متسنانوں کا۔ مخلوق بہت سے ایسے بچوں کو لاتی حضور پر نور کی حضور ہی میں جو قریب الکرگ ہوتے۔ جس بچہ کے سر پر دست شرفقت پھرنے ساتھ ہی اُس کا نام بدل دیتے۔ گھر والوں سے یہ خطاب ہوتا کہ جو تمہارا بچہ بیمار تھا وہ بزرگان دین نے لیا اور اپنا تندرست تمہیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت صحت ہونے لگ جاتی۔ حضور سے ہی روز میں بالکل تندرست اور بار آور ہو جاتا۔ جو لوگ حضور پر نور کے دربار پر مصیبت زدہ۔ درد و الم میں گھرے ہوئے انسان آتے وہ اسی وقت خیر و خوبی کی مراد لے کر جاتے۔

مالی جب پیوند لگا دیتا ہے پھل والے شجر کی پہلی صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی وقت وہی صورت عطا ہو جاتی ہے جس کا پیوند لگا یا ہے۔ ڈالی، پتہ پھول، اور پھل وہی ظہور میں آتا ہے جس کا پیوند لگا یا گیا ہے۔ مصیبت زدہ اور درد و الم میں گھرے ہوئے مخلوق جس وقت حاضر ہوئی۔ حضور پر نور اُس کو پیوند لگا دیتے۔ حقیقتاً وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ پہلے جو اس پر حکم احکام ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے۔ اللہ کے فضل سے۔ عرض ہے عاقبت سے پاک کر کے واصل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اور مجالس محمدی کا شرف عطا کیا جاتا ہے۔ وحدانیت کے وصو کا شرف حضور پر نور عطا فرماتے ہیں اور حقیقت کی نماز کا سبق پڑھاتے ہیں۔ طالب اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہوتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با وضو ہوتا ہے۔ پہلے شریعت کا وضو اور اور نماز پھر طریقت کا وضو اور نماز اور پھر حقیقت کا وضو اور نماز یہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اور ہر مقام پر فیض جاری ہے۔ مخلوق ہر قسم کا فیض آپ سے اٹھا چکے ہیں۔ ہر قسم کا فیض اٹھا رہے ہیں حال پر۔ اور ہر قسم کا فیض قیامت تک اٹھا

وہیں گے۔ جو صاحب قرب جواریں رہتے ہیں وہ بھی فیض اٹھا رہے ہیں اور جو دور دراز رہتے ہیں انہیں وہیں فیض پہنچ رہا ہے۔ دور دراز کے فیض کی کیا صورت ہے؟ پہلے محبت کی طرف محبوب کی طرف سے صفت آتی ہے وہ صورت وہیں آجاتی ہے۔ معنوں کے اعتبار سے بھی ہر جگہ جلوہ گرمی ہو رہی ہے اور صورت کے اعتبار سے بھی ہر جگہ جلوہ گرمی ہو رہی ہے۔ یہ فیض گراں نزرگان دین کے دربار سے عطا ہو رہا ہے۔

حضرت قبلہ میاں خدابخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ چالیس سال تک حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے دربار پر چکے لگاتے رہے۔ وہاں سے آپ "سراج ولی" ہونے کا خطاب عطا ہوا۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی تطیب ربانی غوث صمدانی خجکے روضہ مبارک پر چالیس ابدال ہر وقت موجود رہتے ہیں اور تین حصوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ کسی کو چودہ سال کے بعد فارغ کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو اکیس سال کے بعد فارغ کر دیا جاتا ہے اور کسی کو چالیس سال کے بعد فارغ کر دیا جاتا ہے۔ جس علاقہ کا جس کو حکم ہوتا ہے وہ وہیں جا کر مخلوق خدا کو فیض پہنچاتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں دین اور دنیا کا حضور پرنور حضرت میاں خدابخش صاحب سراج ولی کو جالندھر شریف کا حکم ہوا۔ جالندھر شریف میں آپ کا دربار آباد پورہ میں تھا۔ تمام مخلوق آپ سے دین کا بھی فائدہ اٹھاتی رہی اور دنیا کا بھی فائدہ اٹھاتی رہی۔

حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم چودہ سال آپ کی خدمت میں روپڑ رہے اور وہاں سے نزل کا انعام عطا ہوا، اعمال کا شرف عطا ہوا۔ علم کا تقصیر

عطا ہوا اور اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن کی صورت سے اترنے لگ گیا ہر مقام پر۔ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور بزرگان دین کی دعا و برکت ہر حال میں۔

حضرت فضل شاہ صاحب محبوب عالم قدس سرہ العزیز آپ کی ارادت ازیلی کا یہ حال تھا۔ اب حال پر بھی یہی ہے کہ جس کو چہ و بانار میں جاتے صدق و صفا کی آب ہوا میں چلنے لگ جاتیں۔ توحید کا پرچم لہرانے لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق غرض و غایت سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے لگ جاتی۔ بزرگان دین کے آنے کا منشا ادا ہو جاتا۔ بزرگان دین کے آنے کا منشا صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو غرض و غایت سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ سے واصل کیا جائے۔ جو حضور پر نور کے دامن کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس دامن پاک ہو جاتا ہے۔ جو صاحب حضور پر نور کے قدم قدم ہو جاتا ہے۔ اسے مقام دوام عطا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور می کا شرف عطا ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو خیر و برکت عطا فرمائے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ (ابن شہم امین)

بیانِ قادر

طریقہ قادری تین طریقوں پر ہے

پہلا طریقہ ——— زاہدِ قادری

دوسرا طریقہ ——— سرورِ قادری

تیسرا طریقہ ——— قاضیِ قادری - (جو حال پر مہر ہے)

زاہدی قادری یہ صرف اپنی ذات سے
تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ

پہلا طریقہ — زاہدی قادری

اپنی ذات سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا۔ زاہدی قادری
بھی اگر اپنے لیے کچھ نہ چاہے تو اس کو تمام فنا فی اللہ عطا ہو جاتا ہے۔ فقیر جس
وقت فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ آگے اس کے بقا باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانوس
ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔

زہد کیا ہے؟ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ اللہ تعالیٰ
پاک ہے انسان کو بھی اُس (اللہ) کے لیے ہر وقت پاک رہنا چاہیے۔ وہ انسان
اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اُس کا ہو جاتا ہے۔

حضرت سلطان العارفين سلطان بامو
پر منکشف ہوا، جناب رسول کریم

دوسرا طریقہ — سروری قادری

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس مقام پر فرماتے ہیں بزرگان دین حال پر۔
اللہ تعالیٰ دینے والا ہو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دلانے والے
ہوں اور حاضر وقت بزرگان دین تقسیم کرنے والے ہوں۔ حضرت سلطان بامو
کو مقرر کیا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سرور ہونے کا
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا کیا۔ سرور نے جناب
عنوت الاعظم رضی اللہ عنہما کو سرور کا علم عطا فرمایا اور حضرت سلطان بامو کو
اس سروری کی تقسیم کرنے کی اجازت دی حال پر۔ زاہدی قادری زہد کرنے
اپنے آپ سے تو زاہدی قادری ہو جاتا ہے۔ اور سروری قادری زہد کرے اپنی
خلوت سے اور خلوت سے۔ حسب طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ثبوت پیش کیا۔ سب
کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ اپنے لیے کوئی شے نہیں بنائی یہ ذاتی
زہد ہے۔ چاہت کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی چاہت نہیں رکھی یہ
صفاتی زہد ہے۔ جس کو زہد الانبیا فرماتے ہیں بزرگان دین۔ اللہ تعالیٰ نے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بھی پایہ عنایت کیا اور صفات سے
بھی پایہ عنایت کیا۔

زاہدی اپنی ذات کے لیے کچھ نہ چاہے تو زاہدی قادری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ
نے سرور بنایا محبوب کو (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو
چاہے گا اسے سروری قادری ہونے کا خطاب عطا ہو جائے گا۔ پہلے زاہدی

قاوری ہوتا ہے۔ اس کے بعد سروری قاوری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذیلی قاوری ہوتا ہے۔ یہ تینوں مقام ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ سروری قاوری کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے ماضی قاوری ہونے کا خطاب عطا فرمایا حال پر۔

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن معنوں سے قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ ان معنوں

سے قادر ہے کہ مستقبل کا مالک اللہ تعالیٰ حال کا بھی مالک اللہ تعالیٰ اور ماضی کا بھی مالک اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں زمانے اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ "ابد" سے قادر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے قادر ہوتا ہے وہ بھی "ابد" سے قادر ہو جاتا ہے۔

اسی لیے حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو ابدالقاور (عبدالقاور) فراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر (حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم مذللہ العالی) کو یہ شرف حال پر عطا فرمایا کہ مستقبل اس کا مستقبل ہے۔ حال اس کا حال ہے اور ماضی اس کا ماضی ہے۔ ماضی اس کا شاید ہے۔ حال حال ہے اور مستقبل اس کا قرآن کریم ہے۔ جس فقیر پر یہ تینوں مقام آجاتے ہیں وہ ابدالقاور (عبدالقاور) ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے قادر ہونے کا مرتبہ عطا فرماتا ہے اپنی رحمت سے۔

فقیر (حضور پر نور حضرت فضل شاہ قطب عالم مذللہ العالی) کو جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا اس صورت سے خواب میں کہ سب نبی اور رسول صحابی تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، قلندر، ابدال، امام، ولی، ادیب، مومنین صالحین اور مسالین جو پہلے ہیں اور جو اب حال پر ہیں اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔

سب جمع ہوئے۔ ساری کائنات میں سے ایک بزرگ حال پر حاضر نہ تھے۔ ہوشیار پور کے نزدیک پہاڑی پران کا مزار ہے۔ شاہ نور جمال فرماتے ہیں بزرگان دین ان کے نہ ہونے کا لوٹ آنے پر فوراً ہی یہ اعلان ہو گیا کہ شاہ نور جمال بھی حاضر ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر (حضور پر نور) کو تخت مبارک پر بٹھایا۔ تاج مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑا اور تمام حاضرین کو فرمایا کہ سب دعا کرو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ اس فقیر کو ابدالاً باو تک جاری اور ساری رکھے۔ (آمین تم آمین) وہ تاج مبارک جناب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو عطا کیا اور جناب غوث الاعظم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ تاج مبارک فقیر (حضور پر نور) کے سر مبارک پر رکھا اور فاضلی ہونے کا خطاب عطا کیا۔ سب دعا کر رہے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امین ہاتھوں سے تخت کو اشارہ کر رہے تھے اور وہ آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ پھر آپ نے اشارہ کیا پھر بلند ہوا۔ اشارہ کیا پھر بلند ہوا۔ اسی طرح انشا اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی کا جو شرف عطا فرمایا ہے وہ قیامت تک بلند ہوتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی بلند ہوگا۔

پہلا اشارہ — زاہدی قادری۔ دوسرا اشارہ — سروری قادری اور
تیسرا اشارہ فاضلی قادری۔ اس لیے اب فقیر (حضور پر نور حضرت فضل شاہ
صاحب قطب عالم مدظلہ العالی) کو حال پر اللہ تعالیٰ نے کل ہونے کا خطاب فرمایا۔
زاہدی قادری — ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا
سروری قادری — اللہ کے لیے ہر وقت پاک رہنا اور سرور (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے لیے ہر وقت با وضو رہنا۔

فاضلی قادی

(۱) اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا اور سرور کے لیے با وضو رہنا۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے نام کو بلبند کرنا اور ذکر میں مشغول رہنا۔

(۳) درود پاک میں مصروف رہنا۔

یہ تین مقام حقائق کی انتہا ہیں اور دو مقام حقائق کی امت ہیں۔

(۱) مسلمان کا ہاتھ این سو۔ (۲) اور زبان برائی سے پاک ہو۔ جس مبارک

وجود میں یہ پانچ مقام آجائیں گے وہ صاحب اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ اس کا ہو

جائے گا۔ وہ بزرگان دین کی صف میں شمار ہو جائیگا۔ قیامت کے دن بھی پاک

اٹھایا جائے گا اور بزرگان دین کی صف میں سے با وضو اٹھایا جائیگا۔

یاد رکھنا چاہیے جو صاحب با وضو ہونا چاہے وہ کسی مردان خدا کی تلاش

میں رہے۔ مردان خدا جس کا وضو کروادیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں

منظور ہو جائیگا۔ کیونکہ پاک ہونا دعویٰ ہے۔ جس دعویٰ کا کوئی شاہد نہ ہو وہ

دعویٰ قابل سماعت نہیں ہے۔ اسی مقام پر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں:-

”جو پاک بن پاک ماسی دے سو پاک کی جان پلپتی ہو“

مردان خدا جس کا وضو کروادیں گے، اس کے وہ شاہد ہو جائیں گے۔ جس نے

وضو کروایا ہے اس کا پیدے کسی نے وضو کروایا ہے مردان خدا نے۔ وہ اس کا

شاہد ہے۔ جس نے اس کا وضو کروایا ہے اس کا پیدے کسی مردان خدا نے وضو

کروایا ہے۔ وہ اس کا شاہد ہے۔ آخر

نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاید نبیوں کے اس پاک جماعت کے اور اللہ تعالیٰ شاید سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ ایک پاک بندہ کی راہی بن گئی اور وہی بزرگان دین کی صفت ہوگی۔

صراطِ مستقیم۔ یہی راستہ ہے میدھا جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اپنے محبوبوں اور محبوبوں کے لیے۔ وہی ہیں راہِ والے اور راہِ ان کا۔

اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو سیدھے راستے پر رہنے کا شرف عطا فرمائے اپنی رحمت سے اور بزرگان دین کی دعا و برکت سے۔ (آمین)

حال پر اللہ تعالیٰ نے حضرت معروف کرخی کو انجام دینے کا شرف عطا فرمایا فقیر (حضور پر نور) کو۔ معروف کرخی قاور۔ سری سقطی کو سرور صلی اللہ علیہ وسلم

نے حکم دیا کہ معروف کرخی کے پاس چلے جاؤ۔ جناب غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہ حاضر میں حاضر ہوئے۔ سری سقطی کو بھی قاور ہونے کا مقام عطا ہے یہ

کرخی (حضور پر نور حضرت میاں خدابخش صاحب) چالیس سال حضور پر نور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر چکر لگاتے رہے۔ چالیس ابدال ہرقت

حضور غوث اعظم کے روضہ مبارک پر حاضر رہتے ہیں جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اسے ایک علاقہ عنایت ہو جاتا ہے۔ چالیس سال کے بعد معروف کرخی کو حکم ہوا

کہ وہ جالندھر شریف میں قیام کریں۔ جالندھر شریف کے نزدیک ایک مقام تھا جس کا نام سید کبیر تھا۔ اولیائے کرام کے وہاں مزارات تھے وہاں آپ کا مسکن بنا

سری سقطی (حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم مدظلہ العالی) چودہ سال تک معروف کرخی (حضرت میاں خدابخش صاحب) کی خدمت میں رہے۔ وہاں سے

چار مدارج عطا ہوئے۔ قول، عمل، علم اور اخلاص۔ حضرت معروف کرخیؒ نے
 مہری سقطنیؒ ہونے کا فہم (حضور پر نور) کو خطاب عطا فرمایا اور ساتھ ہی عبدالغادر
 ہونے کا خطاب عطا کیا۔ آپ صلحاء کے لیے معروف کرخی تھے اور اللہ تعالیٰ کی
 مخلوق کے ساتھ حضرت میاں خدا بخش متراج اولیا تھے۔ جو صاحب حضور پر نور
 (حضرت میاں صاحبؒ) کی خدمت میں حاضر ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو خدا بخش
 دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت پاک ہے۔ جو صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے بزرگان دین
 کے پاس جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے پاک ہو
 جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔

بزرگان دین کے دربار میں تین مدارج ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ خاص الخاص
 کا مدارج یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں۔ خاص کا مدارج
 یہ ہے کہ وہ دین کے لیے بھی جاتے ہیں اور دنیا کے لیے بھی جاتے ہیں اور عام کا مدارج
 یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جاتے ہیں۔

سبب دنیا۔ عام کے لیے سبب دنیا ہوگا۔ خاص کے لیے سبب دین ہوگا
 اور خاص الخاص کے لیے سبب مولا ہوگا۔ جس سبب کا نتیجہ رتبہ ہو وہ سبب کامل
 ہے اور جس سبب کا نتیجہ دنیا ہو وہ سبب ناقص ہے۔

جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے قاعدہ کلیہ یہ رہا ہے کہ مصیبت زدہ
 انسان بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سبب دنیا لے کر جاتے۔ بزرگان
 دین ان کے لیے دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایزدی میں ان کی مشکل حل ہو
 جاتی۔ اب حال پر یہ ہو رہا ہے۔ پہلے مصیبت زدہ انسان کے لیے دعائے خیر

کی جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ " یہ تو سبب
ذیبا لے کر آگیا۔ اس کے سبب دنیا کو بھی آسان کر دے اور جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے
اُس میں سے بھی دینے کا حکم صا اور فرما دے اور اس کو اس قابل بنا دے جس
کے لیے یہ صاحب دعا کرے اُس کی بھی دعا منظور ہو جائے " اللہ تعالیٰ نے
خال پر فقیر (حضور پرنور) کو یہ شرف عطا فرمایا ہے سبب ادبیا مو، دین ہو یا مولا
ہو، سب کے لیے ایک ہی تقسیم ہو رہی ہے۔ عام سے خاص بن جاتا ہے اور
خاص سے خاص الخاص بن جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں۔ پاک
کرتے ہیں اور پھر کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ معروف کرخی (حضور پرنور
سلطان العارفين قطب الاقطاب کامل اکمل حضرت میاں خدابخش صاحب تہذیب اور
قدس سرہ الغریب) کو سہری سقطنی (حضور پرنور فضل شاہ صاحب مدظلہ العالی) کو
حال پر علوت میں جب بلانا منظور ہوتا تو میاں فضل کریم کے نام سے بلاتے
ولی حضور سہری سقطنی کو "فضل شاہ قطب عالم" کے نام سے بلاتے۔ اولیا حضرت
سہری سقطنی کو "فضل دین" کے نام سے بلاتے۔ قلندر حضور سہری سقطنی کو
"قلندرا عظیم" کے نام سے بلاتے۔ تمام ولی۔ اولیا۔ غوث۔ قطب اور ابدال
نہاروں ناموں سے اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق حضور سہری سقطنی
(حضرت فضل شاہ صاحب) کو بلاتے اور فائدہ اٹھاتے۔ وقتی بھی فائدہ اٹھاتے
اور دائمی بھی فائدہ اٹھاتے۔

سہری سقطنی ایک مقام کا نام ہے اور مقام ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ مقام دائم

ہے۔ آئے جانے والے حکم سے آتے جاتے ہیں۔ کسی نام کا انسان موجب و دوسری مستقلی
 مقام پر چلا جاتا ہے ہی ہری مستقلی ہو جاتا ہے۔ قیامت تک یہ مقامات جاری رہیں گے۔
 نام بدلتے رہیں گے۔ کیونکہ پیاروں کو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے۔ جس زمانے
 میں جو صاحب اس مرتبہ پر جاتا ہے اسے وہی مقام عطا ہو جاتا ہے۔ اور اس مقام کے
 نام سے ہی بلایا جاتا ہے۔

اولیاء حضرت ہری مستقلی (حضور پرنور فضل شاہ صاحب قطب عالم مدظلہ العالی)
 سے با وضو ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے پاک رہنے کا وعدہ فرماتے یہ وعدہ وحدانیت
 کا وعدہ ہے اور یہ وضو بھی وحدانیت کا وضو ہے۔ یہ پاک بھی وحدانیت سے
 پاک ہے۔ عبودیت کے مالک سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نام لہذا اللہ تعالیٰ اور
 اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کا وعدہ فرماتے یہ وعدہ وحدانیت کا وعدہ ہے۔
 اس عمل سے بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور درود پاک میں مصروف رہنے کا شرف عطا
 ہو جاتا ہے۔ یہ انعام وحدانیت کا انعام ہے۔

سالک کے لیے مستقل تسلیم ہے۔ حال نعمت ہے اور ماضی کا شکر یہ ادا
 کیا جاتا ہے۔ جس صاحب پر یہ تینوں مقام آجاتے ہیں وہ معنوں کے اعتبار سے
 بھی قادر ہو جاتا ہے اور عبودیت کے اعتبار سے بھی قادر ہو جاتا ہے۔ صاحب حال
 جس وقت حال کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ عبدالقادر (ابد القادر) ہو جاتا ہے۔
 اسی لیے جناب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
 ان معنوں سے قادر ہے۔ مستقل اس کا جاری کیا ہوا ہے حال کو نعمت بنا کر
 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا ہے اور ماضی محبوب شاہ مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ

تینوں زمانوں پر قادر ہے ان معنوں سے قادر ہے اور ابد سے قادر ہے۔ مستقبل
پر قادر۔ حال پر قادر اور ماضی پر قادر ہے۔

سالک کے لیے مستقبل اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با وضو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پاک رہنا، یہ تسلیم ہے اور
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با وضو رہنا، یہ تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں
مشغول رہنا یہ اعمال اور حال ہے درود پاک میں مصروف رہنا یہ علم اور حلم ہے۔
درود پاک علم سے صفت و ثنا حلم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کو فرشتہ
نہیں جانتا۔ عبودیت کو اپنا علم عطا فرمایا۔

جس بندے اپنے کو اللہ تعالیٰ تینوں مقام عطا فرمادیتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ
کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ابد سے قادر ہے جو اللہ تعالیٰ سے قادر ہوتا ہے وہ بھی ابد
سے قادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو عبدالقادر (ابد القادر) ہونے کا خطاب
مل جاتا ہے اور اب قیامت تک عبدالقادر ہی ہوتے رہیں گے۔

صاحبزادہ جان لینا چاہیے جس ماضی کا حال شاید نہ ہوگا وہ ماضی سچا
ثابت نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جس صاحب کو حال عطا کرتا ہے۔ ماضی اس کا
شاید ہو جاتا ہے اور وہ صاحب ماضی کا شکر یہ ادا کرتا ہے حال سے فائدہ
اٹھاتا ہے اور مستقبل اس کے لیے نعمت ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نعمت جس
وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو اور پیلے جو صلیا پر نعمتیں عطا ہو سکی

ہیں۔ ان کا شکر یہ ادا کیا جائے یہ نعمت کا شکر یہ ہے۔ نعمت کا شکر یہ ادا ہو تو نعمت کی برکت برقرار رہتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلی جاتی ہے اور انسان کے ہاتھ میں صرف بات چیت ہی رہ جاتی ہے۔ بے حقیقت ہو جاتا ہے نہ وہ اپنی بات سے آپ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

صاحبِ وجودِ قول کا شکر یہ قول سے ادا کیا جاتا ہے۔ اعمال کا شکر یہ مال سے ادا کیا جاتا ہے۔ علم کا شکر یہ علم سے ادا کیا جاتا ہے اور اخلاص کا شکر یہ اخلاص سے ادا کیا جاتا ہے۔ اخلاص خالص۔

قول سے شکر یہ۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرو۔

اعمال کا شکر یہ۔۔۔ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کرو۔

علم کا شکر یہ۔۔۔ جو اللہ تعالیٰ نے علم حقیقی عطا فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو علم عطا کرو۔ علم الہی!

اخلاص کا شکر یہ۔۔۔ خالص رہو اپنی ذات کے ساتھ اور خلوص

رکھو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ۔

بندگی کی شرط یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہے۔

وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو بندگی ہے ورنہ نیک عادت رہیگی۔ قول ہی

رہیگا، اعمال کی صورت نہ ہوگی۔ قول بھی وہ قول جس کی برکت اللہ تعالیٰ

کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سب صحابہ کو قریب جوار کی نعمت عطا فرمائے۔ دوری سے دور رکھے جس طرح اپنے پیاروں کو دور رکھا اپنی رحمت سے۔ اور حضور نبی کا شرف عطا فرمائے اپنی رحمت سے اور بزرگان دین کی دعا و برکت سے۔ آمین ثم آمین۔



بیانِ نیت

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

نیت ہر ایک انسان کی حقیقت ہے اور حقیقت حق سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہے تو یہ غلوت کا زہد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت با وضو رہے تو یہ جھلوت کا زہد ہے اس زہد پر پھر سے بزرگان دین کی اور یہ زہد "زہد الانبیاء" ہے۔ جس صاحب پر یہ دونوں مقام آجاتے ہیں۔ وہ صاحب زہد الانبیاء ہو جاتا ہے۔ جو صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہے اسے زہد عنایت ہو جاتا ہے اور جو صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت با وضو رہے اسے زہد الانبیاء عطا ہو جاتا ہے۔

اسی صورت سے اخلاوت کی صورت سے ذکر کرے تو یہ ذکر ثانی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کو بے تکلف سے ذکر کرنا ہے۔ جو صاحب ذکر میں ہر وقت مشغول رہے اس صورت سے، اس مشغول کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ فارغ اللہ تعالیٰ کے لیے اور مشغول بزرگان دین کے واسطے۔ مدد پاک میں مصروف رہنا یہ اس کا انعام ہے۔ بزرگان دین کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا اور ان کے متعلقین

سے باادب رہنا یہ اس کا فرمان ہے فرمان اللہ تعالیٰ کا۔

مُحِبُّ كَأَعْمَلِ قَوْلِ كِي صَوْرَتِ مِیْنِ بَحِی اِوَا مِوَرِ هَا هِی اِپِنِی لِیْهِ اَوْرِ عَمَلِ كِی
صَوْرَتِ سِیْ اِوَا مِوَرِ هَا هِی خَلْقِ اللّٰهِ كِی لِیْهِ۔

یہ تین مقام (پاک و با وضو۔ ذکر و درود پاک) گل کے ہیں اور یہ انتہائی گل
کے مقام ہیں۔ ابتدائی گل کے دو مقام ہیں۔

مسلمان کا ہاتھ ایمن ہو اور زبان برائی سے پاک ہو۔ بزرگان دین فرماتے
ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو ایمن ہونے کا خطاب عطا
فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی زبان مبارک کو پاکی کا انعام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے
جس کا ہاتھ ایمن ہو گا دل بھی اسی کا پاک ہو گا ورنہ دل کے پاک ہونے کی اور
کوئی صورت نہیں۔

صاحبو! دیکھو غور کر کے جس کا ہاتھ پاک ہو جائیگا۔ اس کی نیت درست
ہو جائے گی۔ جس کی نیت درست ہو جائیگی اس کا عقیدہ درست ہو جائیگا۔
جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کا اعمال درست ہو جائیگا۔

حقیقتاً نیت جو ہے یہ مومن کی زمین ہے۔ جس کی نیت اچھی ہوگی اس
کی زمین اچھی ہوگی اس کا پھول اور پھل بھی اچھا ہوگا۔ بنجر زمین میں کتنا ہی اچھا
بیج ڈالو وہ بامراد نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمان کا ہاتھ ایمن ہو اور زبان برائی
سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے با وضو رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے سے اور درود پاک کو ادا کرنے
وضو اور مناسک کے تین مقام ہیں۔

عام پنچ ویسے — خاص سٹ ویسے اور خاص الخاص ہر ویسے -
 محبت ادب کا کل ہے۔ اور علم تقسیم کی بیان ہے علم الہی "۔ جس علم کے
 معنی "جاننے" کے نکلتے ہیں -

محبت وہ ہے جو حق کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔
 علم وہ ہے جو حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو حقیقت بزرگان دین -

علم حسن ہے اور محبت حسین ہے -

حسن کیا ہے؟ گمان نیک رکھو -

حسین کیا ہے؟ نیت نیک رکھو -

برہان نیت — نور — اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور اتر رہا ہے -

سب کے لیے ایک ہی اتر رہا ہے - نور کی تقسیم نیت پر ہو رہی ہے - وہی نور
 مسلمان کو مسلمان ہونے کی بلندی عطا کرتا ہے - وہی نور مومن کو مومن ہونے
 کی بلندی عطا کرتا ہے - وہی نور اولیاء کو اولیاء ہونے کی بلندی عطا کرتا ہے -
 کافر جو ہے اس کی نیت کفر کی ہے - وہی نور اس کو کافر ہونے کی بلندی عطا
 کرتا ہے - منافق جو ہے اس کی نیت منافقت کی ہے - اس لیے وہی نور اس
 کو منافق ہونے کی بلندی عطا کرتا ہے -

اس لیے مسلمان کی خلوت کی صورت سے بھی نیت ٹھیک ہوتی چاہیے
 اور جلوت کی صورت سے بھی نیت ٹھیک ہوتی چاہیے - نیت ایک حقیقت
 ہے - جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جس کی بُری ہوتی
 ہے وہ بُرا ہو جاتا ہے -

اچھا اعمال اچھی نیت سے بنتا ہے۔ بُری نیت سے اچھا اعمال بھی بُرا
 ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو بُری نیت سے محفوظ
 رکھے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگانِ دین کی دعا و برکت سے۔ آمین
 تم آمین

نوٹ !

صاحبو! آخرت میں جو انعام ملنے والا ہے اُس کا ذائقہ چکھنا ہو تو دنیا
 میں ہی چکھ لو تا کہ سرخرو ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔
 انعام کیا ہے؟ ساری کائناتِ راحت کی خواہاں ہے۔ راحت سوائے
 زہد کے کسی مقام پر نہیں ہے نہ ساری کائنات میں کوئی صاحبِ ثامت کر سکتا
 ہے کہ راحت سوائے زہد کے کسی مقام پر ہو۔

بیانِ ایقان

جو صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے پاک ہو جاتا ہے وہ معنوں کے اعتبار سے وحدت کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جو صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با وضو رہتا ہے وہ ستر وحدت کو قبول کر لیتا ہے معنوں کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ جو صاحب وحدت کو قبول کرتا ہے اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو ستر وحدت کو قبول کرتا ہے اس کا ساتھ ستر وحدت کا ساتھ ہو جاتا ہے۔

ستر وحدت کے ہاتھ کا مقام کیا ہے؟ "آمین"

جو صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے پاک ہو جاتا ہے اس کی بسم اللہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با وضو رہتا ہے۔ ہاں الرحمن الرحیم آجاتا ہے۔ اس صاحب کی بسم اللہ ہر مقام پر معنوں کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی جاری رہتی ہے۔

(۱) جو صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے پاک ہو جاتا ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔

(۲) جو صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با وضو رہتا ہے وہ

صاحبِ ایقان ہو جاتا ہے۔

(۳) جو صاحب اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرتا ہے وہ صاحبِ عرفان

ہو جاتا ہے۔

(۴) اور جو صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کرتا ہے اور

دروود بھیجتا ہے وہ صاحبِ فرمان ہو جاتا ہے۔ فرمان اللہ تعالیٰ کا۔

کل کے یہ چار طبعی مقام ہیں اور صفاتی پانچ ہیں۔

صفات کی استبداد۔ (۱) مسلمان کا تھنا این ہو۔ (۲) مسلمان کی

زبان پاک ہو۔

صفات کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہے اور محبوب

صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با وضو رہے۔ (۳ اور ۴)

اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرے (۵، ۶)

اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کرے اور

دروود بھیجے۔ (۳ اور ۵)

جس صاحبِ سچے میں یہ نو مقام آجائیں گے چار طبعی اور پانچ صفاتی۔

اس کے لیے اللہ تعالیٰ اکل ہو جائیگا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اکل ہو جائیگا۔

وہ صاحبِ سچا اکل سے اکل اکل ہو جائیگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وحدت ہے

محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) تروحدت ہے۔

شریعت کا وضو اور نماز یہ جزو ہے طریقت کا وضو اور نماز یہ جزو اعظم

ہے حقیقت کا وضو اور نماز یہ کل ہے۔

یہ جزو بھی بزرگان دین کا جزو ہے۔ یہ جزو اعظم بھی بزرگان دین کا اعظم ہے اور کل بھی بزرگان دین کا کل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی جماعت فرشتوں کی جماعت ہے اور پاک جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت عبودیت کی جماعت ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرتے ہیں اپنے لیے ذاتی۔

عبودیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے۔

محبوب کی جماعت معنوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرتی ہے اور صورت کے اعتبار سے بھی بلند کرتی ہے۔

اس لیے مومن پر جہاد ہر مقام پر فرض رہتا ہے اور ہر وقت فرض رہتا ہے۔ پیارو! شریعت کا جہاد وہ وقتی ہوتا ہے وہ عظیم رکھتا ہے نفس کا جہاد یہ عظمت رکھتا ہے اور نفس کے جہاد کو بزرگان دین جہاد اکبر فرماتے ہیں۔ اولیا کا نفس جس وقت غیر رخ رکھتا ہے اس کا جہاد اسی وقت اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیا عظمت رکھتا ہے۔ جو نفس بزرگان دین کی شان رکھتا ہے اُسے جہاد اکبر عظامیت ہو جاتا ہے جس صاحب پر یہ تینوں مقام آ جاتے ہیں وہ صاحب اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔

جو صاحب اللہ کے لیے پاک ہو جاتا ہے وہ عاشق ہو جاتا ہے۔ جو صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با وضو رہتا ہے اس کو عشق عطا ہو جاتا ہے اور اس عشق کو عطا لگ جاتی ہے۔ اس عطا میں خطا نہیں ہے۔ پیارو! سن لو! ساری کائنات میں اس کا بدل نہیں ہے۔ کائنات

میں رہے تو اس بن چھٹکارا بھی نہیں۔ اس لیے سب صاحبوں کو فوراً اللہ کی
 پاکی کو قبول کر لینا چاہیے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو ہر وقت
 با وضو رہتے کی ہے اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ یہ رحمت و برکت کی
 لوٹ ہو رہی ہے۔

بیانِ حقوقِ العباد

ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا۔

اللہ تعالیٰ سے پاک رہنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہو کر

رہنے کے معنی نکلتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با وضو رہنے کے معنی

زید الانبیاء کے نکلتے ہیں۔ پانچ وقت کا وضو اور نماز یہ شریعت کا وضو اور نماز ہے۔ سات وقت کا وضو اور نماز یہ طریقت کا وضو اور نماز ہے۔ عام پنج ویسے۔

خاص ست ویسے اور خاص الخاص ہر ویسے۔

” وضو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

حقیقت کا وضو اور نماز

کے لیے ہر وقت اور نماز اللہ تعالیٰ

کے لیے پاک رہنا اللہ تعالیٰ سے۔ اس پاکی کو ادا کرنا مخلوق اللہ سے۔ مخلوق اللہ

سے جس وقت یہ عمل ہو وہاں پاکی کی نیت ہر وقت بندھی رہنی چاہیے اور بزرگان دین کا ساتھ ہر جگہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ ” وضو کے ساتھ ” جو وضو کے ساتھ

ساتھ ساتھ رہتا ہے اُسے بزرگان دین کا ہاتھ عنایت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ عطا کیا۔ اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے

امین ہونے کا خطاب عطا فرمایا اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو پاکی کا خطاب عطا فرمایا۔ منترہ ہونے کا خطاب عطا فرمایا اور اظہر ہونے کا خطاب عطا فرمایا۔

جس صاحب کا ہاتھ امین ہو جاتا ہے اُس صاحب کا دل پاک ہو جاتا ہے اور زبان کو پاکی کا خطاب عطا ہو جاتا ہے۔ جس صاحب کا دل پاک ہو جاتا ہے اُس کی نیت درست ہو جاتی ہے۔ جس کی نیت درست ہو جاتی ہے اُس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ اُس کا اعمال درست ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی نیت جو ہے وہ اُس کی حقیقت ہے۔ جس کی نیت بگڑ جاتی ہے اُس کا اعمال بگڑ جاتا ہے۔ جس کا اعمال بگڑ جاتا ہے اُس کا علم بگڑ جاتا ہے۔ اُس صاحب پر اخلاص کا مقام ہی نہیں آتا۔ کیونکہ مقام تین ہیں :-

قول، اعمال اور علم۔ اخلاص انعام ہے۔

نور کی تقسیم نیت پر ہو رہی ہے۔ نور ساری کائنات کے لیے جو اتر رہا ہے۔ ایک ہی اتر رہا ہے۔ وہی نور مسلمان کو مسلمان کی روشنی عطا کرتا ہے۔ وہی نور مومن کو مومن کی روشنی عطا کرتا ہے۔ وہی نور اولیا کو اولیا کی روشنی عطا کرتا ہے۔ اسی نور میں سے کافر کفر کی روشنی لیتا ہے۔ اسی نور میں سے منافق منافقت کی روشنی لیتا ہے۔ اسی نور میں سے مومن کو ہر مقام پر خلوت میں بھی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے اور خلوت میں بھی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی خلوت کو بھی دیکھ رہا ہے اور خلوت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے پہلے شرط ایمان کی غیب پر رکھی ہے اور ایمان کا مقام محبت

کے ساتھ رکھا ہے اور عرفان کا مقام بزرگان دین کے ساتھ رکھا ہے ۔
 جو صاحب بزرگان دین کا ساتھ رکھیگا اُسے ایمان بھی عطا ہو جائیگا ۔
 ایقان بھی عطا ہو جائے گا اور عرفان بھی عطا ہو جائے گا ۔

بیانِ ادب

محبتِ ادب کا کل ہے اور علم تقسیم کی جان ہے "علم الہی"۔ جس علم کے معنی جاننے کے نکلتے ہیں

علم وہ ہے جو حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔

محبت وہ ہے جو حق کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ اسی لیے

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ شنید پر بھی غیر کا تسلط موجود ہے۔ جزو پر بھی غیر کا تسلط موجود ہے غیر کے لیے۔ کل پر غیر کا تسلط نہیں ہے۔ وہاں خیر کا تسلط

موجود ہے۔

کل کیا ہے؟ صاحبو! اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو اور اسو اسے پاک رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت با وضو رہو۔

جو صاحب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہتا ہے اسے خیر عطا ہو جاتی ہے

جو صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با وضو رہتا ہے

اسے خوبی عطا ہو جاتی ہے۔ اس خوبی کے معنی محبوبی کے نکلتے ہیں۔ اس لیے

بزرگانِ دین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہِ خوبان کے نام سے پکارتے ہیں

جو صاحب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہتا ہے اُسے زہد عطا ہو جاتا ہے۔
 جو صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با وضو
 رہتا ہے اُسے زہد الانبیاء عطا ہو جاتا ہے۔ اس زہد پر مہر ہے بزرگان دین کی۔
 وضو اور نماز کے تین مقام ہیں۔

”پنج ویلے، ست ویلے، ہر ویلے۔“

پانچ وقت کا وضو اور نماز یہ شریعت کا وضو اور نماز ہے۔ سات
 وقت کا وضو اور نماز یہ طریقت کا وضو اور نماز ہے۔ ہر وقت کا وضو اور نماز یہ
 حقیقت کا وضو اور نماز ہے۔ عام پنج ویلے، خاص ست ویلے اور خاص
 الخاص ہر ویلے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا یہ اس کا مقام ہے۔ درود پاک میں
 مصروف رہنا یہ اس کا فرمان ہے، فرمان اللہ تعالیٰ کا
 جس مبارک اور جو وہ ہیں یہ تمہیں مقام ”کل“ کے آجائیں گے وہ انسان
 ”کل کل“ ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ کل ہے جو صاحب کل کے ساتھ لگ جاتا
 ہے وہ کل سے کل کل ہو جاتا ہے

جو صاحب پاک ہونا چاہے وہ کسی مردان خدا اور ولی تلاش میں
 رہے۔ جس ولی کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پاکی بھی منظور ہو چکی ہو اور
 وضو بھی منظور ہو چکا ہو۔ جسے وہ پاک کر دیں گے۔ وہ پاک ہو جائیگا۔ جس
 کا وہ وضو کر دے دیں گے اس کا وضو بھی منظور ہو جائیگا۔ کیونکہ ولی ہر وقت
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ با وضو رہتا ہے۔ جو ان سے لگ جاتا ہے۔ اس لگنے کے معنی لگن کے لگتے ہیں۔ اُس صاحب کی پاکی بھی منظور ہو جاتی ہے اور وضو بھی منظور ہو جاتا ہے۔

ثبوت۔ پاک ہونا ایک دعویٰ ہے جس دعویٰ کا کوئی شاہد نہ ہو وہ دعویٰ قابل سماعت ہی نہیں۔ مردانِ خدا جس کا وضو کروادیں گے اُس کا وضو منظور ہو جائیگا۔ جسے پاک کرویں گے وہ پاک ہو جائے گا جو صاحبِ آپ کا وضو کروادیں گے اور پاک کر دے گا۔ اس کا پیلے کسی مردانِ خدا نے وضو کروایا ہے۔ وہ اُس کا شاہد ہے۔ حال پر، جس نے آپ کا وضو کروایا ہے وہ تمہارا شاہد ہے۔ جس مردانِ خدا کا وضو ہو چکا ہے اس کا پیلے کسی مردانِ خدا نے وضو کروایا ہے۔ جس صاحب کا وضو ہو چکا ہے اس کا پیلے کسی مردانِ خدا نے وضو کروایا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دن پورے (قیامت کا دن) میں اس پاک جماعت کا شاہد اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے منفق اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ انعام والی صفت۔ راستہ وہ راستہ ہے۔ صراطِ مستقیم!

صاحبو! سن لو یہ وہی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جماعت فرشتوں کی جماعت ہے۔ پاک جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت عبودیت کی جماعت ہے۔ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرتا ہے ذاتی۔

عہودیت کیا ہے ؟

” اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے ذاتی اور صفاتی ۔

اس لیے فرشتے کا عبادت کُل ہے ۔

بندے کا عبادت جزو ہے ۔

فرشتے کی انتہا عبادت اور بندے کی ابتدا عبادت ۔ اس لیے بزرگان دین

فرماتے ہیں بندہ عبادت کے لیے بھی ہے اور عہودیت کے لیے بھی ہے ۔ فرشتے

عبادت کے لیے ہے اور عبادت بندے کے لیے ہے ۔

اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو غیر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے

اور غیر سے کام لینے کا شرف عطا فرمائے ۔

اپنی رحمت سے نواز رہے اسی صورت سے جس صورت سے اللہ تعالیٰ

اپنے مقبولوں اور محبوبوں کو نواز رہا ہے ، نواز رہا ہے اور قیامت تک نواز رہا

رہے گا ۔ امین ثم امین

بیانِ مجالس

جس صاحب کو خلوت کا زہد عطا ہو جاتا ہے۔ وہ پاک ہو جاتا ہے اللہ سے۔ اور جس صاحب کو جلوت کا زہد عطا ہو جاتا ہے اُسے مجالس محمدی عطا ہو جاتی ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

صاحبو! سنو! انسان ویدار کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور خود دار پر رہنے کے لیے آیا ہوا ہے کیونکہ دار نہ ہو تو ویدار نہیں۔ وار ہال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ پل صراط

وار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ذاتی غرض و غایت سے پاک ہو جائے تو وار کا مقام آجاتا ہے۔

ویدار کیا ہے؟ صفاتی غرض و غایت سے منترہ ہو جائے تو ویدار کا مقام آجاتا ہے۔ اس مقام پر حضرت مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں۔

اج ویدار بناں مل بلداستے رجبہ کر لوظا سے

پھر ستر دخل ملے بانہ ملے دلیر سے در بار سے

اسی مقام پر حضرت میراں سید بھیکہ فرماتے ہیں۔

جے کوئی اپنا آپ پر لکھیے

مہا مورت کا مبارک دیکھیے

لاگے مالی دوار میں تور سے بلہار پر سجدہ جی

میں تور سے بلہار

صاحبو! اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلقِ انڈیا کی طرف ایک ہی نور کا

ورود ہو رہا ہے۔ مسلمان کو مسلمان ہونے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ مومن

کو مومن ہونے کا شرف عطا ہو جاتا ہے۔ اولیا کو اولیا ہونے کا شرف

عطا ہوتا ہے۔ کافر جو ہے اُس کی نیت کفر کی ہے۔ وہی نور اس کو کفر

کی بلندی عطا کرتا ہے۔ منافق جو ہے اُس کی نیت منافقت کی ہے وہی

نور اس کو منافقت کی بلندی عطا کرتا ہے۔

نیت ایک حقیقت ہے ہر ایک انسان کی جو ایک کے ساتھ لگ جاتا ہے

وہ نیک ہو جاتا ہے۔ جو غرض و غایت میں الجھ جاتا ہے اس کی حقیقت الجھ

جاتی ہے۔ جس کی حقیقت الجھ جاتی ہے اس کی نیت الجھ جاتی ہے۔ جس کی

نیت الجھ جاتی ہے وہ غرض و غایت سے لگ جاتا ہے۔ جو غرض و غایت

سے لگ جاتا ہے اُس کا عقیدہ الجھ جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ الجھ جاتا ہے

اس کا اعمال الجھ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**۔

نیت جس صاحب کی ٹھیک ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس صاحب

کی نیت الجھ جاتی ہے وہ انسان الجھ جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔

جو صاحب اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ٹھیک رہیگا وہ ٹھیک ہو جائیگا۔

جو صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے با وضو رہیگا وہ ٹھیک
سے ٹھیک ٹھیک ہو جائیگا۔

اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو دنیا کے پیر پیر سے محفوظ رکھے اور نیرنگان
دین کا ساتھ عطا کرے۔ دنیا کے معاملے ہیں اور دین کے قریب ہیں۔

(آمین ثم آمین)

بیانِ عام، خاص اور خاص الخاص

عارف کے وجود میں تین مقام ہر وقت جلوہ گری کرتے دیتے ہیں۔

پہلا مقام۔ عبادت

دوسرا مقام۔ صفت و ثنا

تیسرا مقام۔ حقائق

مقامِ عبادت جس کا حال ہے وہ پاک ہے۔

جس صاحب کا مقام صفت و ثنا ہے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ ہے۔

اور جس صاحب کا مدارج حقائق سے حق اس کے پاس ہے۔

عبادت جزو ہے۔ صفت و ثنا جزو اعظم ہے اور حقائق کل ہے۔ جہاں

ہو کل وہیں نہیں بھٹل۔

جس صاحب پر جس وقت صفت و ثنا کا مقام آجاتا ہے۔ صفت و ثنا

متحرک ہوتی ہے اور عبادت ساکن ہو جاتی ہے۔

معارف پر جس وقت حقائق کا مقام آجاتا ہے۔ صفت و ثنا ساکن

ہو جاتی ہے اور حقائق متحرک ہوتا ہے۔

جس صاحب پر جس وقت عبادت کا مقام آجاتا ہے۔ غرض دعا و عبادت
 ساکن ہو جاتی ہے اور عبادت متحرک ہوتی ہے۔ غرض دعا و عبادت، دنیا۔۔۔
 محبت کے یہ تینوں مقام جلوہ گری کرتے رہتے ہیں۔

زندگی کی شرط کیا ہے؟ زندگی کی شرط یہ ہے کہ جس کی زندگی کرنا چاہتا
 ہے اس کا بندہ ہو جائے تو زندگی ہے ورنہ نیک عبادت سے۔ نیک عبادت
 کو خطرہ ہر مقام پر موجود رہتا ہے۔ جس طرح بکرا اعلان ہے۔ بگیر ہو جائے
 تو طیب ہو جاتا ہے۔ چھٹکا ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔

کر یا کرم کر، میں تیرا بندہ ہوں۔ ہر مقام پر آسانی عطا فرما۔ مولا
 ہر وقت خیر و رحمت و برکت کا پہلو عطا کر دے (امین)
 ہر مقام پر میرا رولا ہے اسی لیے تو مولا ہے۔

جہاں مولا آجاتا ہے وہاں سے "رولا" چلا جاتا ہے۔ ورنہ "رولا"
 ہر مقام پر موجود رہتا ہے۔

جس صاحب پر عبادت کا مقام آجاتا ہے۔ دنیا اس کے لیے ساکن ہو جاتی ہے
 عبادت متحرک ہوتی ہے۔ دنیا اس کے لیے سلامت ہو جاتی ہے اور وہ عبادت کا شکر
 ادا کرتا ہے۔ جس صاحب پر صفت و ثنا کا مقام آجاتا ہے وہ عبادت پر صبر کرتا ہے
 اور صفت و ثنا کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ جس صاحب پر حقائق کا مقام آجاتا ہے وہ صفت
 و ثنا پر صبر کرتا ہے اور حقائق کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ یہ تینوں مقام عارف پر ہر وقت جاری
 رہتے ہیں عبادت اور صفت و ثنا خلوت سے اور حقائق جلوت سے۔

جس صاحب پر ان تینوں مدارج میں سے جو بھی مقام عالی ہوتا ہے۔

خفایق کے تین مدارج ہیں

پہلا منشا طالب کا ہے۔ دوسرا منشا اللہ تعالیٰ کے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم)

کا ہے۔ تیسرا منشا اللہ تعالیٰ کا ہے۔

طالب کا منشا اپنے آپ کو جاننے کا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه

محبوب کا منشا محبوب کو جاننے کا ہے

اللہ تعالیٰ کا منشا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ہے۔

بیانِ طرفِ (شرعیّت)

اور

بیانِ عقیدہ (طریقیت)

اللہ کے پیار و استوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ لے لو
لیئے والو، رحمتیں اور برکتیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَادْبِعُوا
الْأَمْرَ مِنْكُمْ

اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک صداقت کا پہلو مخلوق کو عنایت فرمایا ہے ساری
مخلوق۔ پتہ چل جائے کہ میری طرف کس کی طرف ہے؟

اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ والوں کی طرف ہے۔ جن لوگوں کی اللہ والوں
کی طرف ہے وہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ثبوت ذاتی اور صفاتی پیش کیا۔ ساری مخلوق
کے سامنے۔ یہ عمل مستقبل کی صورت سے جاری رہے گا۔ حال کی صورت سے جاری

ہے اور پہلوں کی صورت میں جاری رہا ہے۔

عمل کیا ہے؟ درود بھیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوب کے دوستوں پر اور محبوب کی آل پر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔

تو مطلب یہ ہوا جو حضور کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھے گا اور آل کا خیال رکھے گا اُس کی طرف بزرگان دین کی طرف ہوگی۔

جس صاحب کی طرف بزرگان دین کی طرف نہ ہوگی اس کی طرف غیر کی طرف ہوگی۔

اور جن عاصیوں کی طرف بزرگان دین کی طرف ہوگی ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ اس طرف کا نام تسلیمی سجدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اور دوسرا سجدہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ جس کے یہ دونوں سجدے ہو جاتے ہیں اُس صاحب کے معنی بزرگان دین کے مطابق نکلتے ہیں ہر مقام پر۔ جس کی طرف ابلیس کی طرف ہوگی اُس کے معنی بزرگان دین کے مخالف نکلتے ہیں ہر مقام پر، چاہے عمل کی کوئی صورت ہو۔ اس مقام سے صاف پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کس صاحب کی ہے اور غیر کی طرف کس صاحب کی ہے۔ ابلیس کی طرف ہو تو نفس امارہ ہوگا۔ بزرگان دین کی طرف ہو تو نفس نوامہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس نفس کو نوامہ ہونے کا خطاب ملا اُس کا عمل اولیٰ ہوا، معنوں کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے۔ اور اولیا ہونے کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف سے اور حاضر وقت بزرگانِ دین کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے کرم کا مقام ہے۔ اور اسی نفس کو مطہینہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اتراتا ہے۔

غور کر کے دیکھو پیارو۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دلانے والے ہوں اور حاضر وقت بزرگانِ دین تقسیم کرنے والے ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو رحمت عطا کی ہے ساری مخلوق کو تو پھر یہ حکم بار آور ہو جاتا ہے۔

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی صورت پیدا فرمایا۔

اچھی صورت کیا ہے؟ بزرگانِ دین کی صورت ہو۔

ناقص صورت کیا ہے؟ غیر کی صورت ہو۔

جسکی صورت بزرگانِ دین کی صورت ہوگی وہ ایمان دار ہوں گے اور

صاحبِ فلاح ہوں گے۔

جن لوگوں کی صورت غیر کی صورت ہوگی ان لوگوں کو نیچی سے نیچی صورت

میں آمار دیا جاتا ہے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

(۱) انسان کس لیے آیا ہے؟

انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

کے لیے ہر وقت با وضو رہنے کے لیے آیا ہوا ہے۔

(۲) بزرگانِ دین کس لیے آئے ہوئے ہیں ؟

بزرگانِ دین اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کھیل کس لیے رچا رکھا ہے ؟

اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کی جائے اور درود

بھیجا جائے باجماعت عبودیت کے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تین مقام رحمت اور برکت کے رکھے ہوئے ہیں۔

جن میں دین اور دنیا کی فلاح اور بہبودی موجود ہے۔ اس لیے انسان ہر وقت

اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت با وضو

رہے۔ ذکر اللہ کے نام کا (یا وود) کیا جائے۔ اور درود پاک میں مصروف

رہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا ؟

اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائیگا اور وہ اللہ تعالیٰ

کا ہو جائے گا۔ پھر اس صاحب سے جس قسم کا اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے گا،

اسی قسم کا خود تیار فرمائے گا۔ وہ فلاح اور برکت کی صورت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ

کے فضل سے۔

پیارو! ساکن رہو اپنی ذات سے اور متحرک رہو ذات و صفات سے۔

(۱) ساکن کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہو اور محبوب صلی اللہ

علیہ وسلم کے لیے ہر وقت با وضو رہو۔

(۲) متحرک کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرو یعنی ہر وقت ذکر میں

مشغول رہو۔

(۳) شرف کیا ہے؟ درود پاک میں مصروف رہو۔

اللہ کے پیار و غور کر کے دیکھو، جو حالات مطابق نہ ہوں۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ منجانب اللہ ہیں یا کسی غیر کی طرف سے۔ حقیقتاً منجانب اللہ ہی ہیں اور منجانب اللہ ہی انہیں جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے حال عطا کیا ہے وہ حال بزرگانِ دین کا حال جاننا چاہیے۔ پھر سارے غیر مطابق حالات مطابق حالات میں شامل ہو جاتے ہیں اور سارے نقصانات والے مقامات فوائد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ شیوہ بزرگانِ دین کا شیوہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

الصّٰدِقِيْنَ۔

تحقیق اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

تحقیق اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے۔

صاحبو! یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ ان لوگوں کا ساتھ فرمایا ہے جنہیں

صبر اور شکر کی نعمت عطا فرمائی ہے تو مطلب یہ ہوا ہمارا ساتھ ان کا ساتھ ہو

جن کا ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے اور ساتھ جس وقت ساتھ والے کے ساتھ ہوگا

تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سب صاحبوں پر رحمت و برکت نازل فرمائے اور اپنے

پیاروں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ بزرگانِ دین کی دعا و برکت سے۔ آمین

ثم آمین۔

بزرگانِ دین فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دوسری مقام رکھے ہیں۔ نور کا اور مار کا۔

حیات جو ہے وہ نور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور موت مار کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ موت کو موت ہے۔ حیات کو موت نہیں۔ حیات کل سے موت حیات کا ایک جزو ہے۔ ماسوا اللہ کے جو بھی سے موت ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ حیات ہے۔ اللہ والے اللہ کے ساتھ ہیں وہ حیات ہیں۔ اس لیے وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ ماسوا اللہ سے کچھ چاہنا اس میں دنیا کی بھی موت ہے اور دین کی بھی موت ہے۔

اللہ والے ہر مقام پر راضی برضا رہتے ہیں۔

جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رکھنا چاہتا ہے۔ ہر مقام پر چاہے رخ دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاہتا ہے وہ وہی چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ چاہے جاتے ہیں۔

عام لوگ کھانے، پینے، پہننے اور چہرے دہوا کے متوالے رہتے ہیں۔ یہ لوگ فانی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے وہ فانی ہیں اور اللہ والے باقی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے وہ باقی ہیں۔

بزرگان دین کی صورت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جو صاحب بزرگان دین کی صورت جمع اس کے اجزا کے یعنی قول، عمل، علم اور اخلاص کے پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔

ہر مقام پر عقیدہ عین حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب صاحبوں پر رحمت و برکت نازل فرمائے۔ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دینی اور

دنیاوی عطاؤں کی کثرت کر دے اور اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگانِ دین کی دعا و برکت سے۔ امین ثم امین
 اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ رکھا ہے۔ "قاعدہ قدرت" جس کا عقیدہ
 درست ہو اس کا اعمال درست ہو جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس
 کے اعمال درست ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اس کا اعمال درست ہی نہیں
 ہوتا چاہے اعمال کی کوئی صورت ہو۔

عقیدہ کیا ہے ؟

"پہچان" اس کو عقیدہ پہچان فرماتے ہیں بزرگانِ دین۔
 جو صاحب بزرگانِ دین کی صفت و ثناء کرے گا اور محبوبِ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر درود پاک بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اور جو صاحب مذمت کرے
 گا وہ غیر ہے۔ غیر کے معنی غرور ہے۔ غرور کے معنی غرض و غایت ہے۔ غرض
 غایت کے معنی دنیا ہے۔ دنیا اعمالِ نفس ہے اور حجاب ہے۔ غرض
 غایت کا حجاب اٹھ جائے تو دین سے۔

نفس کے عمل کی طرف ہوگی تو مذمت ہوگی بزرگانِ دین کی۔ اللہ تعالیٰ
 کے حکم کی تعمیل ہوگی تو مدح ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اپنے
 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، محبوب کے دوستوں پر، محبوب کی آل پر اور
 محبوب کے اہل پر۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم
 وصلی علیہ۔

یہ بزرگانِ دین نے ساری کائنات کے سامنے "آئینہ قدرت" رکھ دیا ہے۔

اس میں آنے والے حضرات جو قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ وہ ابلیس کے شر سے محفوظ رہیں گے اللہ کے فضل سے۔

آئینہ کیا ہے؟ صفت و ثنا، درود پاک پہلوں پر، حاضر پر اور حاضر ہونے والوں پر، سب پر۔ درود پہلوں پر، حاضر کی تسلیم اور آنے والوں پر ایمان۔

جیسے، اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَمَلْنَا وَرَمَلْنَا وَرَمَلْنَا وَرَمَلْنَا
الْاٰخِرُ وَالْقَدَمِ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ
الْمَوْتِ ط۔

لَوْح ط۔

عقیدہ ایک مقام کا نام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو عطا کیا کیا ہوا ہے۔ جو ان سے پیار کرتا ہے اُسے عقیدہ بھی عطا ہو جاتا ہے اور مقام بھی عطا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ کتاب اور شنید سے تعلق نہیں رکھتا۔ ثبوت۔ اگر عقیدہ کتاب اور شنید سے تعلق رکھتا ہوتا تو ساری کائنات کا ایک ہی عقیدہ ہوتا۔

محبت کے معنی عقیدہ ہے اور عقیدہ کے معنی ایمان ہے۔ اس عقیدہ کے معنی اولی الامر کے نکلنے ہیں۔ اولی الامر کے معنی اللہ تعالیٰ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نکلنے ہیں اور رسول کے معنی اللہ تعالیٰ کے نکلنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ

اللہ تعالیٰ سب صاحبوں پر رحمت و برکت نازل فرمائے اور غمخسور
 سے دور رکھے۔ حضور نبی کا شرف عطا فرمائے۔ اپنے قریب جواریں رکھے
 غیر سے محفوظ رکھے۔ بزرگان دین کی دعا برکت سے (آمین ثم آمین)

بیان عبودیت و عبادت

بندے کے معنی ہیں کہ حکم میں رہے۔ اگر حکم میں ہے تو بندہ ہے۔ بندہ عبادت کے لیے بھی ہے اور عبودیت کے لیے بھی ہے۔ عبادت بندے کے لیے ہے اور فرشتہ عبادت کے لیے ہے۔

عبودیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے۔

فرشتے کا عبادت کل ہے۔ بندے کا عبادت جزو ہے۔ بندے کی استدا عبادت ہے اور فرشتے کی اتہا عبادت ہے۔ بندے کا مستقبل عبادت ہے اور فرشتے کا عمل عبادت ہے۔

اسی لیے شے کو بُری نہیں عادت بُری ہے۔ اگر شے کو برا کہو گے تو مصنفوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو برا کہو گے۔ شے بھلے کے لیے بھلی اور بُرے کے لیے بُری۔ دیکھنا چاہیے اس مقام پر کہ بُری شے ذاتی بُری ہے، اگر ذاتی بُری ہے تو جہاں ہو وہیں اس سے بُرے اثرات ظاہر ہو جائیں گے چاہے بھلی شے استعمال کرنے سے بھلے اثرات معلوم ہوتے ہیں اور بُری شے استعمال کرنے سے بُرے اثرات معلوم ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ مہل ہونے کے وقت حقیقت بھلے کے لیے بھلی اور بُرے کے لیے بُری ہوگی۔

نوٹ:-

جو صاحب حکم کو اپنالے گا اس کے معنی بندہ ہوں گے۔ بندے کی ابتدا عبادت ہے۔ بندے کا مستقبل قرآن حکیم ہے اور فرشتے کا عمل عبادت ہے۔

بیان نفی

کرم عمل کو نہیں دیکھتا احترام کو دیکھتا ہے۔ احترام خلوت میں ہو
تو اُسے نہیں دیکھتا۔ وہی خلوت جلوت کی صورت میں پذیر ہو تو اُسے دیکھتا

ہے۔

ذاکر کے تین شاہد ہیں۔ تین شاہد کون ہیں؟

پہلا — ذکر

دوسرا — درود پاک

تیسرا — سالک کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا چاہیے اور

محبوب کے لیے ہر وقت با وضو رہنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

جس کے یہ تین شاہد ہو جائیں وہ اُسی وقت صاحب مقام ہو جاتا ہے۔

اسی وقت صاحب عرفان ہو جاتا ہے، اسی وقت صاحب انعام ہو جاتا ہے۔ اور اسی وقت صاحب

فرمان ہو جاتا ہے۔ فرمان اللہ تعالیٰ کا۔ اُس کے لیے جس کی نوعیت (ن) سے ہو۔

ذاتی "ن" کے معنی نفی اور صفائی نوعیت۔ نوعیت وہ جو حال پر ہو

مومن کوئی کام کرے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ

دوری پیدا ہوتی ہے کہ حضوری پیدا ہوتی ہے۔ اگر دوری پیدا ہو تو طبع کے

معنی نکلیں گے اور اگر حضوری پیدا ہو تو منظوری کے معنی نکلیں گے چاہئے عمل کی کوئی صورت ہو۔ دوری ہو تو نفس مترجم ہوگا۔ حضوری پیدا ہو تو قرآن شاہد ہوگا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غیر کا گھر ماضی ہے عارف کا شاہد ماضی ہے۔ قول ماضی کے لیے ماضی، مستقبل کے لیے مستقبل، حال کے لیے حال ہے۔

مومن کی شان۔ شانِ سلیم۔

اُس کے لیے جس کی نوعیت "ان" سے ہو۔

ذاتی نوعیت۔ اپنے لیے ہر مقام پر فارغ رہنا۔

مقامِ نفی۔ نفی کے معنی لا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مشغول

رہنا۔ مخلوق کے منافع کے لیے تیار رہنا الا اللہ ہے۔ یہ مدارج اللہ تعالیٰ

کا مدارج ہے۔ بزرگان دین کا شیوہ ہے اور محب کے لیے میوہ ہے۔ جس محب پر یہ مقام آجاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔

میدانِ عمل۔ حقیقتاً عمل کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق

کے ساتھ مشغول رہے اور اپنی ذات و صفات سے فارغ رہے تو شانِ عمل

سے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائیگا اور وہ اللہ تعالیٰ کا

ہو جائیگا۔ سالک کے لیے یہ دونوں مقام جس وقت نفی اور اثبات کے

پورے ہو جاتے ہیں۔

ن، ل، ب، تین حرف (نون) (الف) (با)

نون (ن) کے پہلے الف (ل) ہے۔ الف احدیت ہے اور

احدیث سے الف ہے۔ مدارج الف کا ب (با)۔ احادیث بے بہا۔
 الف کا مدارج بے بہا۔ اس لیے محبت اللہ تعالیٰ کا ہو جانا ہے! اللہ تعالیٰ
 کا مدارج بے بہا ہے۔ اس لیے محبت بھی بے بہا ہو جانا ہے۔

شرعیات کے قول کی ابتدا پانچ سے ہے۔ پانچ رکن اسلام کے۔
 طریقت کے قول کی ابتدا نو (ن) سے ہے۔

حقیقت کے قول کی ابتدا الف (ا) سے ہے اور معرفت
 کے قول کی ابتدا ب سے ہے۔ ب بے بہا ہے۔ اور بے بہا اللہ تعالیٰ
 کے علم کو فرماتے ہیں بزرگان دین۔ علم کے معنی "جاننا" اور جاننے کے
 معنی "معرفت" ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جسے میں سب سے
 بڑا انعام عطا کرتا ہوں، اُسے اپنے علم کی سمجھ عطا کرتا ہوں۔ اپنا علم بھی عطا
 فرماتا ہوں اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہوں۔

اسی لیے قول کے چار مقام رکھے ہیں۔ اسی طرح عمل کے بھی چار مقام
 رکھے ہیں۔ اسی طرح علم کے بھی چار مقام رکھے ہیں اور اسی طرح اخلاص
 کے بھی چار مقام رکھے ہیں۔

"کہنا۔ کرنا، ہونا، نہ ہونا اپنے لیے۔ ہونا اللہ تعالیٰ کے
 لیے۔ رہنا مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے لیے۔"

(ب) کشف کی ابتدا کس لفظ سے ہے ؟

پہلے سب سے تلاش کرو کائنات میں کہ کشف کی بسم اللہ کا کون

سا لفظ عنوان کا مدارج رکھتا ہے۔ الف سے لے کر والناس تک،

ایک سے لے کر پانچ تک اور پانچ سے لگا کر پچیس تک اور پچیس سے لگا کر ایک تک اور ایک سے لگا کر پچیس تک پچیسواں لفظ نون (ن) ہے۔
 نون (ن) کی نوعیت ذات کے ساتھ لفظی کا مدارج رکھتی ہے اپنے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نوعیت کا مدارج رکھتا ہے۔
 نون (ن) لفظ ایک ہے مدارج اس کے دو۔

بیان تصور

جو لوگ خیالی تصور باندھتے ہیں بزرگان دین کا، وہ ناقص تصور ہے۔
بزرگان دین کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی صورت سے آمارا ہے خلق اللہ

کی طرف۔

اور بزرگان دین کے دل کو اللہ تعالیٰ کا علم جاننا چاہیے اسی لیے حضرت

مولینا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

مگر معنی قرآن ہم ہیں قرآن بیاں ہمارا

جو زبان پاک سے بزرگان دین فرماتے ہیں وہ قول ہے بزرگان دین

کا۔ وجود اعمال ہے۔ ان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ یہ تین حقائق

ہیں، جہاں یہ تین حقائق آجاتے ہیں اللہ کے فضل سے اور انسان زندہ ہو

جاتا ہے اور پائندہ ہو جاتا ہے۔ حیات ابدی عنایت ہو جاتی ہے اُسے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُس کے پاس اخلاص کا انعام آتا ہے جس کی صورت

میں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اُس کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہو

جاتا ہے۔

خیال خام سے آج تک کوئی فائدہ تصور باندھنے والے کو وصول نہ

ہوا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا منشاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی طرف
آمارنے کا (مبعوث فرمانے کا) یہی ہے کہ ساری مخلوق کو حقائقِ حقانی سے
متعارف کرایا جائے۔ آپ بھی چین سے رہے دنیا اور آخرت میں اور آپ کے
ساتھ رہنے والے بھی چین سے رہیں دنیا اور آخرت میں۔

مسلمان کا ہاتھ امین ہو اور زبان برائی سے پاک ہو۔ یہ دو مقام ذاتی
ہیں مسلمان کے۔ اور یہ حقائق کی ابتدا ہے۔ اور تین مقامِ صفاتی ہیں۔ مَن
عَرَفَ لَفَسَدَ فَقَدْ عَرَفَ رَأْيَهُ۔

(۱) سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے انسان کو کہ میں دنیا میں کس لیے

آیا ہوں؟

انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہنے کے لیے اور محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم کے لیے ہر وقت با وضو رہنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ اس کا حقائق
اور منشا ہے۔

(۲) پھر دیکھنا یہ ہے کہ بزرگانِ دین کس لیے آئے ہوئے ہیں؟
بزرگانِ دین اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔

یہ بزرگانِ دین کا منشا ہے۔

(۳) تیسرا مقام۔ دیکھنا یہ ہے کہ حق کو کس طرح پانا چاہیے؟
حق کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ درود پاک پڑھا جائے۔ یہ حق کا منشا

ہے۔

جس وجود میں یہ پانچ خفائق ظاہری اور باطنی موجود ہو جائیں گے۔ وہ انسان بزرگان دین کی صف میں شمار ہو جائے گا اور قیامت کے دن مردانِ خدا کی صف میں اٹھایا جائے گا۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے سامنے نقشہ ازلی رکھ دیا ہے پہلا سجدہ اللہ تعالیٰ کو مخصوص ہے یہ سجدہ تسلیمی سجدہ ہے۔ بزرگان دین کے وجود کو اعمال تسلیم کیا جائے تو یہ تعظیمی سجدہ ہے۔

جہاں یہ دو مقام آجاتے ہیں اُسے اللہ تعالیٰ اپنا علم عطا فرماتا ہے یہ علم حقیقی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام آتا ہے اخلاص حسن کی صورت سے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے اور معنوں کے اعتبار سے۔

بزرگان دین فرماتے ہیں: ”اے مخاطب! جدتیکر توں پلے گل اسی بنیں پھروا ایں۔ توں اللہ دا عالم ناہیں۔ تو دنیا دا عالم ایں۔ قول اوہ حقیقتاً اللہ دی گل اے جس وقت تیرے ہتھ بزرگان دین وا قدم آ گیا پھرتوں اللہ دا عالم ہو جاویں گا۔“

اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں سب سے زیادہ فضل عطا کرنا چاہتا ہوں اُسے اپنا علم عطا کرتا ہوں۔ اور سمجھنے کی توفیق بھی ہر مقام پر عطا کی جاتی ہے وقت و وقت پر صاحبِ حال کو۔ وہ معنوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا عالم ہو جائیگا اور صورت کے اعتبار سے بھی عالم ہو جائیگا۔ جب طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ عالم نائبِ رسول ہے۔ اس لیے بزرگان دین

آئے ہوئے ہیں۔

بزرگانِ دین جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرماتے ہیں۔ یہ قول ہے۔
بزرگانِ دین کا وجود و اعمال ہے اور بزرگانِ دین کو جو اللہ تعالیٰ نے دل عنایت
فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے دل نہیں عنایت
فرمایا، عمل عنایت فرمایا ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے نام پوچھے تو وہ نہ بتا سکے۔
کیونکہ ان کا مقام ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دل
عنایت فرمایا، علم عنایت فرمایا اور سب چیزوں کے نام سکھائے۔
صاحبو! جان لو! فرشتے کا مرتبہ جو ہے وہ اعمال تک ہے (قول
اور عمل)۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عطا فرمایا اور اخصاص
بھی عطا کیا۔ یہ دو مرتبے فرشتے سے اولیٰ اور ارفع ہیں۔ ”اس لیے بزرگانِ
دین کو فضیلت ہے سب فرشتوں پر۔ کیونکہ بزرگانِ دین کو اللہ تعالیٰ
نے قول عنایت فرمایا، عمل عنایت فرمایا، علم عنایت فرمایا اور اخصاص
عنایت فرمایا۔

نوٹ :-

- (۱) بزرگانِ دین کے قول کو تسلیم کیا جائے تو یہ تصور ہے قول سے
- (۲) بزرگانِ دین کے وجود کو اعمال تسلیم کیا جائے تو یہ تصور ہے اعمال سے۔
- (۳) بزرگانِ دین کے دل کو اللہ تعالیٰ کا علم تسلیم کیا جائے تو یہ تصور ہے

علم سے۔

(۴) بزرگانِ دین کے اخلاص کو تسلیم کیا جائے تو یہ تصور ہے مولا سے جس صاحب کے یہ چاروں مقام پورے ہو جاتے ہیں حقیقتاً اس انسان کی ایک طرف بن جاتی ہے۔ اس طرف کے معنی بزرگانِ دین کی طرف سے وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

نوٹ :- (۲)

صفات سے پہلے تصور ناقص ہے۔ صفات کے بعد تصور کامل ہے۔ کیونکہ تصور صفات کا کمال ہے اور صفات اعمال کا جزو ہے۔ صفات رحمت کی ابتدا ہے اور تصور فضل کی انتہا ہے۔ صفات حسن ہے اور تصور حسین ہے۔ صفات تسلیم ہے اور تصور قدیم ہے۔ قدیم سے قدم بزرگانِ دین کا نقش قدم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔

نوٹ :- (۳)

قرآن پاک کو جاننا ہو تو بزرگانِ دین کو جانو۔ اگر بزرگانِ دین کو نہ جانو گے تو قرآن پاک کا جاننا تمہارا اپنے علم سے ہوگا۔ انسان حادث ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور قدیم ہے۔ قدیم قدم سے بنتا ہے قدم بزرگانِ دین کا۔ نقش قدم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔

بزرگان دین کو جانا یہ قرآن پاک کو جانا ہے۔ ان کے قول کو سننا یہ قرآن

پاک کا سننا ہے۔

اسی مقام پر بزرگان دین فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا سنت ہے

اور سننا فرض ہے۔ مولانا روم کا فرمان ہے ع

معنی قرآن ہم ہیں قرآن بیاں ہمارا

نوٹ :- (۲)

جو صاحب بزرگان دین کی صفت کو پاجاتا ہے۔ صفت پانے والا صفت

میں حلول ہو جاتا ہے (ذاتی) باصفت کی صفت جس وقت جہاں آ

جاتی ہے تو اسی صفت کا تصور بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ تصور ہمہ صفت

موصوف ہے۔ ذاتی صفت جس وقت حلول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح

تصور میں تصور کی چابکدہ ہے تصور حلول ہو جاتا ہے صفات ہیں۔

محسوس کا تصور آتا ہے اور جس کے پاس آتا ہے وہ محسوس ہی ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سب صاحبوں کو بزرگان دین کے قدم قدم چلنے کی توفیق عطا فرما

بیانِ قدم - قدم بزرگانِ دین

جس طرح عام مخلوق کتابِ شہید میں الجھی ہوئی ہے۔ اسی طرح خاص گ بھی کتابِ شہید میں الجھے ہوئے ہیں وہ اس بات کی تلاش و جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ "قلب جاری ہو جائے"۔ جب کسی طور پر جاری ہو جاتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں وہی ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی کو مخلوق بزرگی سمجھتی ہے اور اسی کو وہ بزرگی سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ناقص عمل کی وجہ سے اس میں الجھ جاتا ہے وہی اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔

بزرگی تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہنے کے معنی نکلتے ہیں۔ اور بزرگی کی عظمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے باوجود رہنے سے ہے۔ اطمینان ذکر میں مشغول رہنے والے کو عطا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے دونوں مقام ہیں موجودہ اور مقصودہ۔

موجودہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مقصودہ اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے

خلق اللہ کے لیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی اولے صفتیں ہیں ان کے ایک مقام پر جمع

ہو جانے کا نام مقصود ہے۔ حقیقاً اللہ تعالیٰ کا مقصود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

ہے۔ خلق اللہ کا مقصود بھی محبوب ہی ہے۔

عرفان حقیقت

محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفیں اولیٰ
ہیں ان کو اپنا لینے کا نام مقصود ہے۔ صفت

محبوب کا جزو ہے اور تمام صفتوں کا محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) منظر کل
ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے بیان دیا ہے کہ عمل کو فضیلت نہیں ہے رُخ
کو فضیلت ہے۔ "حقیقۃً اعمال محبوب کی صفت کا نام ہے۔ سچے جتنے مقامات
ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عطا کیے ہیں اور جھوٹ
کے جتنے مقام ہیں وہ سب غیر کے ہیں۔ جان لینا چاہیے سچ محبوب کا رُخ
ہے اور جھوٹ غیر کا رُخ ہے۔ جتنے کائنات ہیں فرقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ
سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور سب فرقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مانوس
ہونے کا مقام عطا کیا ہے۔ دین کی بنیاد بزرگان دین سے ہے۔ جو صاحب
بزرگان دین کے قدم قدم ہو جاتا ہے۔ اس صاحب کی دین سے بنیاد رکھی
جاتی ہے۔ اُس کی دنیا دین بن جاتی ہے اور دین مولا۔

عام لوگ اور خاص لوگ - وہ پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی بتاتے ہیں۔
بزرگان دین - وہ پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی بتاتے ہیں اور جو ان پر
عطا ہو رہی ہے وہ عطا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔

عطا کیا ہے؟ محبوب کی ایک صفت اولیٰ اور یہ خیر ہے۔
نزلی کیا ہے؟ محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم)

صاحب! جان لینا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کا محبوب مقصود ہے تو ہمیں
بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود بنا لینا چاہیے۔ صفت اولیٰ

محبوبہ کی صفت ہے اور محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) باصفت ہے۔ جو صاحب
 باصفت کی صفت کو جس وقت اپنا لیتا ہے اُسے خیر عطا ہو جاتی ہے اور جو
 محبوب کو جان لیتا ہے۔ اُسے محبوبی عطا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں
 بزرگان دین،

”عمل کو فضیلت نہیں ہے رُخ کو فضیلت ہے۔“ عمل اور فرقہ
 میں بھی ہو رہا ہے اور دین کی بنیاد، محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رُخ۔ جس کو
 اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پلک میں نقشہ کھینچ کے دکھایا ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ پہلے بھی مانوس تھا۔ اُس وقت بھی مانوس تھا اور اب بھی مانوس
 ہے۔ — راندہ کس لیے گیا؟ محبوب کے رُخ کی تعظیم نہیں کی۔
 جو صاحب اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تسلیم اُسے عطا
 ہو جاتی ہے اور جو صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ
 باوصو ہو جاتا ہے تعظیم اُسے عطا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔
 صفت کے ساتھ بنتا ہے۔ خاص محبوب کے قدم سے بنتا ہے اور خاص اللہ
 محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت سے بنتا ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ محبت کسی عمل سے نہیں بنتا محبت سے بنتا
 ”عمل۔ پڑھا سوا اور سنا سوا۔“ جو لوگ اربعہ عناصر سے تعلق رکھتے ہیں
 وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو بھی اربعہ عناصر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اور جو
 صاحب محبوب کی عطا کی ہوئی صفت سے دیکھتے ہیں۔ انہیں عشق کی آنکھ سے
 ہو جاتی ہے وہ نظر بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ جو عاویب نظر بصیرت سے

دیکھتے ہیں انہیں اولے اصفیٰ عطا ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اربعہ عناصر کی
 آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی ناقص صفت میں جھلک رہے جاتے ہیں۔ اسی میں
 رہیں جاتے ہیں اور فانی ہو جاتے ہیں۔ جو صاحبِ محبت سے دیکھتے ہیں محبوب
 کو وہ فنا سے گزر جاتے ہیں بقا انہیں عطا ہو جاتی ہے۔
 صاحبو! جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نزدیک صفت ہے اور کیفیت
 ہی کو دیکھتی ہے۔

لطیف چشمہ (عینک) لے لو محبوب سے تاکہ تم بھی لطیف ہی کو دیکھنے
 لگو۔

لطیف کیا ہے؟ محبوب کی ایک صفت — کیفیت کیا ہے؟ —

اربعہ عناصر کی ایک صفت

اسی لیے بزرگانِ دین نے فرمایا کہ ساری کائنات کی بنیاد اربعہ عناصر سے

ہے اور بزرگانِ دین کی بسم اللہ عشق سے ہے۔

عام لوگ جو اربعہ عناصر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ان کی وجہ یہ ہے۔ وہ

یہ جان رہے ہیں۔ جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح محبوب کھاتے پیتے

ہیں۔ جس طرح ہم چلتے پھرتے ہیں اسی طرح محبوب چلتے پھرتے ہیں۔ جس طرح

ہم رہتے سوتے ہیں اسی طرح محبوب میں بھی یہ ساری صفیں ہیں۔

خاص لوگ وہ یہ دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اولے اصفیٰ

عطا کی ہیں۔ ہم میں تو ایک بھی نہیں۔ اس لیے وہ جان لیتے ہیں کہ محبوب کی

ایک ایک اولیٰ صفت کو اپنا لینا چاہیے اور محبوب سے لے لینی چاہیے۔

صاحبِ اقبال کے دورِ دورے میں نہ رہو۔ قالی کا ہمیشہ ہاتھ خالی رہتا ہے
صاحبِ حال کے قریب ہو جاؤ اگر اپنی بہتری اور فلاح چاہتے ہو تو۔ اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ چار مقام رکھے ہیں۔ قول کا حال (اعمال) شاید ہو تو سچا ثابت
ہو جاتا ہے ورنہ قول کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ صرف
چھدکا ہی انسان کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔

قول کا اعمال شاید ہو تو قول سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ اعمال کا علم شاید ہو
تو سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ علم کا اخلاص شاید ہو تو سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ قول
شرعی ہے۔ اعمال طریقیت ہے۔ علم حقیقت ہے اور اخلاص معرفت ہے۔
جس صاحب کو یہ چاروں مقام عطا ہو جاتے ہیں وہ صاحبِ اللہ تعالیٰ کا ہو
جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔

نوٹ:۔

کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رحیم
ہوں جو میرا کتبہ گار ہو گا میں اُسے بخش دوں نہ بخشوں یہ میری مرضی ہے
مگر منافق کو میں نہیں بخشوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور جو محبوب کو نہیں
جاتا وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اولیٰ صفیں عطا کی ہوئی ہیں محبوب کو، منافق اس صفت
کو نہیں مانتا اور محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اللہ تعالیٰ نے تمام خلق اللہ کی طرف
بھیجا ہے وہ محبوب کو نہیں پہچانتا اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا۔
جو صاحبِ بزرگانِ دین کی اولیٰ صفت کو نہیں مانتا وہ دنیا سے اوگت چلا
جاتا ہے۔ اور جو صاحبِ محبوب کو نہیں مانتا وہ دین سے اوگت چلا جاتا ہے۔

لیے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرا گنہگار
 کا اُسے بخشوں نہ بخشوں یہ میری مرضی سے ہے۔ اور جو منافق ہے اُس کو نہیں بخشوں گا۔
 مگر کافر میرا گنہگار ہے اور منافق میرا بھی گنہگار ہے اور میرے محبوب کا بھی گنہگار ہے۔
 اللہ تعالیٰ سب صاحبوں پر رحمت و برکت نازل فرمائے۔ دوری سے دُور
 ہے اور حضورِ کا شرف عطا فرمائے، بزرگانِ دین کی دعا و برکت سے۔
 (اٰمِن تَم اٰمِن)

بیان غرض و غایت

عام لوگ جو بولتے ہیں وہ غرض و غایت کے ماتحت بولتے ہیں۔ عالم لوگ فرماتے ہیں وہ شنید اور کتاب سے فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیارا زبانِ خدا سے بولتے ہیں۔ غرض و غایت دنیا ہے۔ کتاب اور شنید قول ہے اور حال ثمر ہے۔ قول مستقیم ہے اور حال ثمر ہے۔ جس قول کا حال شاید نہ ہو وہ قول مستقیم ثابت نہیں ہوتا۔ قول سواری ہے جو حال تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے غایت کی ہے۔ اعمال جس وقت سچا ثابت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اعمال کو علم کی آنکھ عطا فرمادیتا ہے۔ علم ہے جو فرمایا گیا وہ علم ہوگا اور علم الہی ہوگا۔

دنیا غرض و غایت کے ساتھ ہے۔ قول سے جو عالم تعلق رکھتے ہیں وہ قول کی صورت سے فرماتے ہیں شنید اور کتاب سے۔ پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی بتاتے ہیں۔ بزرگانِ دین بات بتاتے ہیں اور اعمال غایت کرتے ہیں۔ اعمال کیا ہے؟ صاحبِ جود! اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنے سے پہلے سب عطا کیا تھا ہے۔ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ عطا کرنے والا تو انا کریم ہے ہمارے ذمہ کوئی مسام نہ رکھا اور جو کچھ عطا کیا نہ کوئی اس میں مشقت رکھی

چاہیے کہ ایسے کریم سے لگ جائیں۔ دنیا کی نعمتیں پہلے عطا کر چکا ہے اور دین کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لینی چاہئیں۔

لینے کی صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہمیں بھی اس کے لیے پاک ہو جانا چاہیے۔ ہر وقت پاک ہو جانا چاہیے اور جہاں رہیں پاک رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ۔

جو انسان پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اسے جلوت کی پاکی عنایت ہو جاتی ہے وہ فرد ہو جاتا۔ اور جو صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ با وضو ہو جاتا ہے اسے جلوت کی پاکی عنایت ہو جاتی ہے وہ "مرد" ہو جاتا ہے اور مردان خدا ہو جاتا ہے۔

جلوت کی پاکی تسلیم ہے اور جلوت کی پاکی تعظیم ہے۔ جس صاحب کے یہ دونوں سجدے ہو جاتے ہیں وضو اس پر سنت ہو جاتا ہے اور سجدہ اس پر فرض ہو جاتا ہے۔

صاحبو! دیکھو غور کر کے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے اور ساری کائنات میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عطا کیا۔ ہماری تسبیح، ہماری کتاب، ہمارا اپنا علم اور عقل یہ ہمارے مقام ہیں یہ حادث مقام ہیں۔ محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا وہ قدیم کا مقام ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جو صاحب بزرگان دین کے قدم بزم ہو جاتا ہے۔ اسے مقام قدیم عنایت ہو جاتا ہے۔

قدیم کیا ہے؟ پاک رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور باوجود رسول اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ۔ جس صاحب کو مقام قدیم عطا ہو جاتا ہے وہ بزرگان دین کی صف میں شمار ہو جاتا ہے اور باجماعت ہو جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ساتھ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ والوں کا گروہ ہی جائیگا۔

اللہ تعالیٰ نے قول کو اعمال پر اتارا ہے۔ اعمال کو علم پر اتارا ہے اور علم کو اخلاص پر اتارا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھئی اور اعمال پر بھی "منشا" کتاب نشا ہو اور نمونہ محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صورت ہو۔

قول اعمال تک پہنچا دیتا ہے "اعمال بزرگان دین۔" جن لوگوں کا بزرگان دین کے ساتھ میل جول ہو جاتا ہے وہ لوگ اعمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ جن کا میل جول نہیں ہوتا وہ قول ہی کے دور دورے میں رہتے ہیں۔ حقیقتاً قول بے جانا ہے کثافت کو لطافت کی طرف اس وقت جس وقت کثافت کا میل ہوتا ہے لطافت کے ساتھ۔ لطافت کی جتنی صفتیں ہیں وہ اولیٰ ہیں۔ کثافت کی جتنی صفتیں ہیں وہ ضائع ہو جانے والی ہیں۔

میل جول کی صورت میں ایک نا جائز صورت چلی جاتی ہے اس کی جگہ ایک جائز صورت آ جاتی ہے۔ پھر نا جائز صورت چلی جاتی ہے جائز صورت آ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر نا جائز صورت چلی جاتی ہے، جائز صورت آ جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے نا جائز سب نکل جاتی ہیں۔ جائز سب آ جاتی ہیں۔ کثافت پر لطافت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ "رنگ شہوری"۔

” رنگِ شہودی ” بری صفتیں چلی جاتی ہیں اچھی صفتیں آجاتی ہیں اور عطا ہو جاتی ہیں اچھی صفتیں
 ہو جانے کا نام اعمال ہے۔ جب اعمال سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ربار
 میں، تو اس سچے اعمال کو اللہ تعالیٰ علم کی آنکھ عطا فرماتا ہے۔ وہ صاحبِ رُشَن ہنمیر
 ہو جاتا ہے۔ انسان جس آنکھ سے دیکھ رہا ہے یہ کثافت سے تعلق رکھتی ہے اور
 کثیف ہی کو دیکھ رہا ہے اور جسے نورِ بصیرت عطا ہو جاتا ہے وہ صاحبِ معنوں کے
 اعتبار سے دیکھتا ہے جس صاحب کے معنی لطیف ہو جاتے ہیں۔ وہ صاحب
 صورت کے اعتبار سے بھی لطیف ہو جاتا ہے۔ سالک کو خبردار رہنا چاہیے ہر ایک مقام پر قرب
 اور بعد کی صورت کیا ہے؟ اگر پہلی عادات اس میں رہیں گی تو یہ بعد کی صورت ہے۔
 جو سالک اپنی عادات کو بزرگانِ دین پر قربان کر دیگا۔ اسے قرب کی صورت
 عنایت ہو جائے گی معنوں کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی۔
 جس صاحب کے عادات تبدیل ہو جاتے ہیں وہ صاحبِ معنوں کے اعتبار سے
 بھی اولیا ہو جاتا ہے اور صورت کے اعتبار سے بھی اولیا ہو جاتا ہے۔
 صاحبو! سنو اور عمل سے فائدہ اٹھاؤ۔ چھوٹی سے چھوٹی بڑی عادت
 سے بھی دور رہنا چاہیے اور اس سے گزر جانا چاہیے۔ اسی لیے اولیا ہیں کوئی
 کام عادتاً نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہوتا ہے۔ عادت جاتی
 نہیں ہے تبدیل کی جاتی ہے۔ بڑی عادت والے کو جب اچھی عادات والا مل
 جاتا ہے تو وہ بڑی عادات اس کی بدل دیتا ہے اور اچھی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ
 تمام امور صداقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے صدق ہی صدیق سے فائدہ
 اٹھا سکتا ہے۔ مہر بھی صدق پر ہی لگتی ہے صدیق کی۔

صدق پر صدیق کی مہر لگتی ہے۔ صدق نہ ہو تو سچا ثابت ہی نہیں ہوتا اور نہ سچا ثابت ہونے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔

مقامِ صدق۔ سب صاحبوں کے لیے، مقامِ تسلیم کو لازم پکڑے اور بڑی عادتوں سے دور رہے۔ قُرب والی عادتوں کے قُرب و جوار میں رہے جس وقت یہ مقام آجاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بڑی جتنی ہوتی ہیں ایک ایک کر کے نکل جاتی ہیں۔ اچھی جتنی ہوتی ہیں ایک ایک کر کے شامل ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے حبیبِ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی مقام رکھا ہے۔ نوابِ اولیٰ۔ مقام ایک ہے نام دو ہیں۔ جو دوست ہوتا ہے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے اور جو غیر ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جس کو قُرب کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ساتھ اسے تڑپنے اور پھٹنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ قلبِ مرتضیٰ کا عطا ہو جاتا ہے۔ سوزِ صدیق ہونے کا انعام اتر آتا ہے بزرگانِ دین کی طرف سے۔ کیونکہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔

جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو یہ سببِ کامل ہے۔ دنیا کی صورت سے جو سبب ہو وہ سببِ ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے لیے کریم ہے۔ اپنے پیاروں کو قُرب کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ راستہ سببِ کامل۔ راستہ وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ صراطِ مستقیم۔ مومن کے لیے شاہراہ اور مسلمانوں کے لیے شارع۔ شرعِ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ مولا کے لیے فراق ہو تو یہ سوزِ صدیق ہے۔ اپنے لیے ہو تو یہ دوری ہے اور مجاز ہے۔ محبت

کو مزہ جات سے دور رہنا چاہیے۔ یہ فرق ہے۔ اس کا فراق۔ فراقِ دنیا ہے۔
 سوزِ صدیق ہو تو وہ فراقِ کامل ہے۔ جو اپنے لیے ہو وہ فراقِ ناقص ہے۔
 مزہ جات کے معنی فرق سے۔ مزہ جات سے دور رہے تو قرب کی نعمت
 اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے اپنے فضل سے۔

اللہ تعالیٰ نے بزرگانِ دین کو اتنا بڑا شرف عطا فرمایا ہے نہ مانے بزرگانِ دین
 کو سزا دینے نہ مانے مخلوق۔ صدیق کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی
 ہے صدق پر صدیق کی مہر نہ گئے تو قول سچا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ نہ پہلے کبھی
 ایسا ہوا ہے نہ اب ہو رہا ہے نہ قیامت تک ہوگا کہ "قول سچا ثابت ہو بغیر
 صدیق کی مہر کے"

صدق ہونا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے۔ طالبِ صدق
 ہے اور ہادیِ صدیق ہے۔ اسی طرح فاروق ہونا بھی محبوب کا ایک مقام ہے۔
 یعنی ہونا بھی محبوب کا ایک مقام ہے اور مولا ہونا بھی محبوب کا ایک مقام
 ہے۔ مہرِ وحدت (صلی اللہ علیہ وسلم) ان تمام مقامات کی جان ہے۔ مہرِ وحدت
 جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

- اسی لیے حدیثِ پاک میں فرمایا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
- جِسْمُكَ جِسْمِي، لِحْمُكَ لِحْمِي، دَمُكَ دَمِي، رَوْحُكَ رَوْحِي۔
- مہرِ وحدت _____ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
- اخلاص _____ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
- علم _____ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

عمل ————— حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

قول ————— حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

یہ چاروں مقام ستر و حدت کے ہیں۔ یہ چاروں نام بھی ستر و حدت کے ہیں۔ یہ چاروں العام بھی ستر و حدت کے ہیں۔ اور یہ چاروں فرمان بھی ستر و حدت کے ہیں۔ فرمان اللہ تعالیٰ کا۔

اسی لیے حضرت میراں تید بھیکھ گم سراج اولیا فرماتے ہیں۔

بھیکھا وہ نہ کوڑے سے جو گرو کو جانے اور

پہر روٹھے گم سلسی گرو ٹھے نہ ٹھور

یہ حال ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سب قال ہے۔

اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو مقام صدق عطا فرمائے۔ سوز عطا فرمائے

قرب و جوار عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ (ایمن ثم ایمن)

بیان مصائب و آلام

اللہ تعالیٰ نے پانچ مقام پیارے کے لیے آزمائشیں رکھے ہیں۔

پہلا مقام	_____	خوف
دوسرا مقام	_____	بھوک
تیسرا مقام	_____	کمی مال
چوتھا مقام	_____	کمی جان
پانچواں مقام	_____	رزق کی کمی

اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ مقام صبر کے رکھے ہیں جو پورا رہے اللہ کے فضل سے، اُسے خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو جاتی ہے۔

خاص الخاص جو مصائب آلام میں گھر چکے ہوئے ہوتے ہیں جو مصائب آلام ان پر گز رہا ہوتا ہے، وہ کسی غیر کی طرف سے نہیں سمجھتے۔ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے اور جانتے ہیں کیونکہ ان کے لیے سب پردے اٹھا دیئے جاتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہر حال میں شامل حال ہیں۔ یہ خاص الخاص راہ والے ہیں اور راہ ان کے لیے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ دو مقام اپنے پیارے کے لیے رکھے ہوئے ہیں صفا اور مژہ
یہ حج گھر کا حج ہے اور مقام عمرہ ہے۔ احرام کا مقام ہے۔ وہ ہمیشہ کے
لیے پاک ہو جاتے ہیں جو خوشی سے رہے اس مقام پر اس کی اپنی بھی نفی ہو جاتی
ہے اور اس کے عالم کی بھی نفی ہو جاتی ہے اور خوف و خطر سے گزر جاتا ہے۔
عام لوگ بیماری کے بیمار ہیں۔ خاص لوگ زار کے بیمار ہیں۔ زار، زار، زاری۔
خاص الخاص لوگ یار کے بیمار ہیں۔ عام لوگوں پر جب بیماری آتی ہے تو وہ
بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوہِ آلام ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ خاص لوگوں پر
جب بیماری آتی ہے وہ اللہ کے خوف سے رونے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ
زار زار کے مریض ہیں۔ خاص الخاص لوگوں پر جب بیماری آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ
سے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ یار کے بیمار ہوتے ہیں اور بیماری ان کے لیے سواری
بن جاتی ہے۔

لگنے کی صورت کیا ہے؟ وہ (خاص الخاص) بسط کو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے سمجھتے ہیں اور قبض کو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں۔ اور جب قبض کا مقام آتا ہے
وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبض کا مقام ہی نہیں رکھا۔ بسط کا مقام رکھا
ہے۔ اس طرح ان کے وجود میں قرب کی طبعیاتی آجاتی ہے اور جو ان کی آنکھ سے
گوہر بارشپک رہے ہوتے ہیں عشق الہی ہیں۔ وہ ہر قطرہ ہر جمال کا بلا وہ لے کر
آتا ہے۔ اللہ والے جان چکے ہیں اللہ کے فضل سے،

بسط کے معنی راہِ راست۔ قبض جس پیارے کو آتی ہے اس کے معنی انعام
کے نکلنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اور انعام دینا چاہتا ہے اس لیے قبض

کا مقام آیا ہوا ہے۔

اللہ والے جب قبض ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں اللہ سے۔ جب بسط ہوتی ہے تو شکر کرتے ہیں اللہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں“

یہ رحمت و برکت کی صورت ہے اللہ تعالیٰ جسے نوازتا ہے اُسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔

صاحبو! سنو! حسب طرح عام لوگوں پر مصائب آلام آتے رہتے ہیں اسی طرح دلیوں، اولیاءوں، غوثوں اور قطبوں پر بھی آتے رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے عام لوگوں پر جب آتے ہیں تو وہ کسی صورت کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ خاص لوگوں پر جب آتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے سمجھتے ہیں اور خاص الخاص لوگوں پر جب آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔

جو لوگ کسی صورت کی طرف سے سمجھتے ہیں وہ مصائب آلام میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ خاص لوگ ہوا اپنے اعمال کی وجہ سے سمجھتے ہیں وہ آئندہ کے لیے غیر اعمال سے پاک ہو جاتے ہیں۔ خاص الخاص لوگ جو جانتے ہیں کہ مطابق اور غیر مطابق منجانب اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کفیل ہو جاتا ہے۔ اُس کے راستے میں غیر نہیں رہ سکتا جتنی صفتیں غیر ہو جو وہیں وہ سب ہٹا دی جاتی ہیں۔

جان لینا چاہیے، اگر مصائب آلام ختم ہو جائیں تو انعامات سب ختم ہو

جائیں اور درجات بھی سب ختم ہو جائیں۔

(۱) عام لوگوں کے لیے مصائبِ آلام کی کیا صورت ہے؟ وہ قول کی صورت سے ہوتا ہے۔

(۲) خاص لوگوں کے لیے مصائبِ آلام کی کیا صورت ہے؟ وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔

(۳) خاص الخاص لوگوں کے لیے مصائبِ آلام کی کیا صورت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ حقیقتاً انہیں اور انعام دینا ممکن ہوتا ہے۔

عام اور خاص وہ پس جاتے ہیں جو کسی صورت کی طرف سے سمجھتے ہیں یا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں سمجھتے۔

خاص الخاص جو اللہ تعالیٰ سے لگ جاتے ہیں وہ ثابت رہتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں ہر مقام پر۔ وہی لوگ ہیں دنیا جن کی دین ہے اور دین مولا ہے جس وقت مصائبِ آلام کی صورت ہو تو دیکھنا چاہیے کہ

(۱) بول چال کی صورت سے ہو رہا ہے۔

(۲) یا اپنے ناقص اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔

(۳) یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔

اگر بول چال کی وجہ سے ہو رہا ہو تو نام بدل دینا چاہیے۔

اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہو تو اپنے اعمال سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے

اعمال سے جس سے فساد برپا ہو۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہو تو صبر کرنا چاہیے۔
مصائبِ آلام کو سلامتی کا پہلو عطا ہو جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔
اس مقام پر حضرت مولوی غلام رسول فرماتے ہیں۔
مت صورت دل دیکھ پیارے معنیوں بھیں دل پاویں
بھلیو بھلی انیکوں صورت کس کس نوں گل لاویں
دوست کے ساتھ دوستی کرو۔ اور مخالف کے مطابق رہو اپنی خلوت
کی صورت سے اور جلوت کی صورت سے۔

اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اپنے بندوں پر۔ وہ کرم کرتا رہتا ہے ہر حال میں۔
اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مقام پر سلامتی سے رہنے
کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مقام پر بزرگانِ دین کا ساتھ ساتھ رہے، اسی طرح
نوازے جس طرح اپنے پیاروں کو نواز رہے نواز رہا ہے اور نوازتا رہیگا۔
(ایمن ثم ایمن)

یہ نقشہ (نقشہ تقدیر ازلی وابدی) بزرگانِ دین نے ساری کائنات
کے آگے رکھا ہے۔ عالمِ ماسوت میں موجود تکلیف اور مصائبِ آلام گزرتے
ہیں ان سب کا حال بیان کیا۔ ساتھ ساتھ ہی حال کے سبب کا حل رحمتوں اور
برکتوں کے ساتھ فرمایا

عالمِ ماسوت۔ عالمِ ماسوت میں حقیقت بھی

موجود رہتی ہے اور مصائبِ آلام بھی موجود

(۱) پہلا مقام

رہتے ہیں۔ امر کا کوٹ موجود ہے۔ پیارو! داخل ہو جاؤ کیونکہ رحمت کا

دروازہ کھلا ہوا ہے جو داخل نہ ہوگا وہ عالمِ ناسوت میں موجود ہے۔ اُسے
لازمی ہر مصیبت کا مرحلہ طے کرنا ہوگا۔ جو صاحبِ تقدیر ابدی کو قبول نہ کرے
گا اُسے تقدیرِ ازل کی کو مجبوراً قبول کرنا پڑے گا۔

۲۔ دوسرا مقام - مقامِ حقیقت - ہر مصائبِ آلام میں حقیقت
موجود رہتی ہے۔ جو کام کرنے سے ہمیشہ

نقصان پہنچتا ہے۔ اس کام کو جو کر رہا ہے اُسے کرنے والا چھوڑ دے۔ جتنی بھی
اپنی صورتیں رکھتا ہے عالمِ ناسوت میں، ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے
ذکر کو لازم پکڑے۔ یہ صورتِ رحمت، برکت اور فلاح کی ہے۔ ہم سے پوچھو
تو یا دو دو سے۔ نہیں تو آپ اپنے لیے جو نسا بھی ذکر چن لو گے وہ بزرگانِ دین
کا ہی چنا ہوا ہوگا۔ ذکر کی صورت کوئی بھی ہو، کسی مقام کی ہو وہ بزرگانِ دین
کی ہی صورت ہوگی۔ دنیا میں ایسے اللہ والے کو ڈھونڈو جو با حقیقت موجود
انسان میں حقیقت نہ ہو وہ مردہ ہے۔ جو با حقیقت ہے وہ زندہ ہے حقیقت
حق سے ہے۔ بھول جانا پیارے کی خاص صفت ہے۔

۳۔ تیسرا مقام - مقامِ شفاعت - اللہ تعالیٰ نے بھول جانے
پر پیارے کو اتنا انعام عطا فرمایا۔ جو لوگ

قیامت تک بھولتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی بدولت معاف
فرماتے رہیں گے۔

۴۔ چوتھا مقام - مقامِ ساکن - اللہ تعالیٰ کے سامنے جو انسان
مصائبِ آلام میں گھر چکا ہو اُسے اپنی تمام

حسن و حرکت چھوڑ کر ساکن ہو جانا چاہیے، اپنی ذات سے بھی اور صفات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ جس قسم کا اپنے پیارے سے کام لینا چاہے گا۔ اسی قسم کا تیار کیا جائیگا۔ جہاں جائے پیارا اسی مقام پر اسی قسم کا علم عطا کیا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ "میں اپنے پیارے سے جیسا بھی کام لینا چاہتا ہوں اُسے خود تیار کرتا ہوں۔"

اللہ تعالیٰ رحمت و برکت نازل فرمائے بزرگانِ دین کی دعا و برکت

سے۔ آمین ثم آمین

(۱۶) تعبیر خواب :- خواب کی تعبیر کے تین مقام ہیں۔

پہلا جزو :- وہ کتاب اور شئید سے تعبیر بیان کرتے ہیں۔

دوسرا جزو اعظم :- جو لوح و قلم پر لکھا ہوا ہو وہ دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔

تیسرا کل :- کل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف عطا ہے جو بیان

کرے اور جس کی تعبیر بیان کرے۔ اسی کا شان نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جس مقام پر حضور پر نور غوث اعظم

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :- صاحبِ حال

ہے لکھیاں لوح قلم دیاں بھالاں ہریاں آئیاں میں ہی ٹالاں

ہتھ درج میرے لکھن پونجن مالک تسلیم سیاہی ا

اسی مقام پر حضرت احمد رضا خان صاحب مجدد صاحبِ حال فرماتے ہیں۔

ہے نعمتیں بانٹنا جس سمت وہ ذی شان گیا

ساتھ ہی غشی رحمت کا قلمدان گیا

اسی مقام پر جناب قادی صاحب فرماتے ہیں۔

ہے وجود واحد ہے چوں سیاہی تعین اس کے حروف سائے

بجز سیاہی اسے قادی دیکھ جیم کیا ہے اور وال کیا ہے۔

صاحبو! جان لو! بزرگانِ دین کے مدارج

ادلے کا عنوان کیا ہے۔ ان کا عنوان عشق

(۱۶) کرامات :-

ہے۔ ساری کائنات کا عنوان اربعہ عناصر ہے۔ جس میں یہودی، نصاریٰ، ہند

پوہڑے، چار، کافر اور منافق تک۔ اللہ تعالیٰ نے مقام کرامات جو رکھا،

یہ مشترکہ مقام ہے۔ اولیٰ عناصر سے جو کرامات تعلق رکھتی ہے وہ کسی ہے۔ بزرگانِ دین سے جو کرامات تعلق رکھتی ہے وہ وہی ہے۔

صاحبو! جان لو! اور جتنے فرقے ہیں دنیا کے متعلق جو وہ کہیں گے ہونے لگے جاتا ہے کسبِ علم سے اسی کو عام اور خاص لوگ سمجھتے ہیں بزرگی حقیقتاً پیارو یہ بزرگی نہیں ہے یہ بھی کسب ہے اور کسبوں کی طرح ہاں یاد رکھنا چاہیے یہ کسب اور کسبوں سے بالکل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے سب فرقے اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ کام کرتے ہیں اس کا انعام آتے ہے لگ جاتا ہے دنیا کے متعلق۔ بزرگانِ دین کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے دین کا۔ دین کیا ہے؟ وضو۔ وضو کے تین مقام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور نماز کے بھی تین ہی مقام رکھے ہیں۔ پہلا وضو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شریعت کا وضو ہے۔ دوسرا وضو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے محبوب کے وہ شریعت کا وضو ہے تیسرا وضو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے محبوب کو وہ حقیقت کا وضو ہے۔ پہلا پانچ وقتی سے، دوسرا سات وقتی ہے اور تیسرا ہر وقتی ہے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے پیارو عام سے خاص بنتا ہے اور خاص سے خاص الخاص بنتا ہے۔ جو صاحب پانچ وقتی ہوگا سات وقتی بھی وہی ہوگا۔ اور جو سات وقتی ہوگا ہر وقتی بھی وہی ہوگا۔ پہلا جزو ہے، دوسرا جزو اعظم اور تیسرا گل نماز کے بھی تین ہی مقام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، پانچ وقتی شریعت کی نماز ہے۔ سات وقتی طہارت کی نماز ہے اور ہر وقتی حقیقت کی نماز ہے۔ پانچ وقتی شریعت کی صورت ہے سات وقتی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور ہر وقتی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ صاحبو! جان لینا چاہیے وضو کی جو

شرط ہے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط ہے۔ جو انسان وضو نہیں کرتا اس پر سجدہ فرض ہی نہیں ہوتا۔ حکم جاری رہتا ہے۔ ساری کائنات کے لیے اور ہر وقت جاری رہتا ہے۔

عشق کیا ہے؟ پاک۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہے انسان اور ہر مقام پر پاک رہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ غرض و عافیت سے پاک رہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت با وضو رہے اور ہر مقام پر با وضو رہے اور پاک رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس وقت چن لیتا ہے اسے ذاتی علم عطا کرتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفاتیں وضو کی ہیں جس بندے اللہ تعالیٰ میں وہ پائی جائیں اسے صفاتی علم بھی عطا کرتا ہے اور وقت و وقت پر عطا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس جس وقت کوئی سوال ہے کہتا ہے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے۔ محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنا حرف، زبیر، زبیر اور نقطہ کچھ بھی نہیں ہوتا (بزرگان دین کا بھی یہی حال ہے) محبوب آنا پاک ہے ماسوا اللہ کے کچھ بھی نہیں رکھتا۔ جو صاحب ماسوا اللہ کے کچھ نہ رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کفیل ہو جاتا ہے۔ اور ہر مقام پر کفیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، دوستی اور دشمنی یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین جو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اور لوگ جو اربعہ عناصر سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ علم کسب سے کہتے ہیں جو بزرگ جو دیکھا ہیں جس وقت کوئی ان کے پاس کوئی سبب لے کر جاتا ہے اس سبب کا اسے انعام عطا ہو جاتا ہے۔ بزرگان

دین کے پاس جس وقت سبب دنیا لے کر مخلوق جاتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں
 ”یا اللہ! اس کے لیے جو بہتر ہو وہ کر دے سبب دنیا کے لیے۔ اور اس انسان
 کو فرماتے ہیں بزرگان دین۔ پہلے وضو کرو پھر اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرو۔ جس وقت
 وہ پانچ وقتی ادا کرنے لگ جاتا ہے پھر سات وقتی نماز کا وضو کروایا جاتا ہے اور
 سات وقتی نماز کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور سات وقتی نماز کی تربیت دی جاتی ہے
 جس وقت سات وقتی پر وہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وقتی وضو کروایا جاتا ہے
 اور پھر وقتی نماز کا عزم پیدا کیا جاتا ہے۔ جس وقت وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے۔
 تینوں مقاموں پر وہ صاحب سچا ہو جاتا ہے اسے سبب بھی عطا ہو جاتا ہے اور رب
 بھی عطا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں۔ جس سبب کا نتیجہ دنیا ہو وہ
 سبب ناقص ہے۔ جس سبب کا نتیجہ رب ہو وہ سبب کامل ہے۔ بزرگان دین
 کے دربار پر دونوں چیزیں عنایت ہوتی ہیں۔ دین اور دنیا۔ جو صاحب جزوی ہیں
 وہاں دنیا ہی عنایت ہوتی ہے دین نہیں۔ جس صاحب کو تینوں مقام وضو اور
 نماز کے عطا ہو جائیں وہ دنیا میں کامل ہو جاتا ہے اور دین میں مکمل ہو جاتا ہے۔
 مولا کے لیے اکل ہو جاتا ہے۔

صاحبوا جان لو! بزرگان دین ساری کائنات کا میل کرانے کے لیے آئے
 ہوئے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کا ہر مقام پر مہیا لگا رہتا ہے۔ خلوت کی صورت
 سے اور جلوت کی صورت سے۔ وحدانیت کی پاکی کے متعلق حضرت سلطان باہر
 فرماتے ہیں۔

جو پاکی بن پاک ہستی سے سو پاکی جان پیتی ہو

جو صاحب دین اور دنیا کا انعام لینا چاہتا ہے۔ وہ مردانِ خدا کی تلاش میں رہے۔ مردانِ خدا پاک ہیں اللہ تعالیٰ سے اور باوجود ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو انسان بزرگانِ دین کی حاضری میں حاضر ہو جاتا ہے اسے شریعت کی بھی پاکی عطا ہو جاتی ہے۔ طریقت کی بھی پاکی عطا ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت کی بھی پاکی عطا ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اربعہ عناصر سے گزر جاتا ہے اور کثافت کے جتنے رنگ ہیں ان پر سے سب اتر جاتے ہیں۔ لطافت کے جتنے مقام ہیں وہ سب جلوہ گرمی کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔

حضور پر نور حضرت میاں خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب وقت قطبِ مان، سراجِ اولیا اور اپنے وقت کے حضورِ معروض

(۱۸) ساقی

کرخی تھے۔ اس لیے آپ جو بھی زبانِ پاک سے فرماتے وہ ایسا معلوم ہوتا کہ یہ فرمانِ اللہ کا فرمان ہے۔ جو حضور پاک فرمایا کرتے تھے حال ہوتا، ماضی میں پایا جاتا اور مستقبل میں پایا جائے والا۔ پایہ دہمی پایہ جو بزرگانِ دین نے پایا۔ اور پایہ چاہیے والے کا پایہ نہ پایہ بزرگانِ دین کا قدم۔ قدم سے نقش قدم۔ معروف کرخی کی خلوت سہری سقطنی اور سہری سقطنی کی خلوت معروف کرخی۔ اسم پاک جو بزرگانِ دین کہے ہیں یہ اسمِ باہمی ہیں۔ اپنے اپنے مقام پر کہ اپنے اپنے زمان ہیں، اپنے اپنے جہان میں، اپنے اپنے وقت میں اور اپنی اپنی ساعت میں ہیں۔ یہ جلوہ افروز نورِ الہی، صاحبِ بصیرت، سراجِ عاشقان اور سراجِ کائنات، سراجِ عارفان، جلوہ کا عاشقان، جبرائیل مجربان، ایسا ہے پیر و اولیاء

تے خبر والے۔ ناز والے تے نیاز والے۔ تاج والے تے مخراج والے، منزل
والے تے نذر والے۔ جاگنے والے اور جگانے والے، رات والے، چاہے
جانے والے اور چاہنے والے۔

پیارو یاد رکھنا چاہیے جو جو مقام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ابتدا میں قیامت
تک جاری رہیں گے۔ نام بدلتے رہیں گے۔ اسی لیے اب محال پر نہ نام سے انکار
کرنا چاہیے۔ اور نہ مقام سے انکار کرنا چاہیے۔ انکار کرنے والا نام سے ہٹا رہے گا
اور مقام سے گزر جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے مقبولوں اور محبوبوں
کے نام ناپک ہیں۔ ایک ایک نام پر ایک ایک مقام رکھا ہوا ہے اور یہ بھی یاد
رکھو کہ ماننے والا ہمیشہ فائدہ میں رہتا ہے اور نہ ماننے والا وہ ہر وقت نقصان
میں رہتا ہے۔

بزرگانِ دین فرماتے ہیں باحقیقت
زندہ ہے اور بے حقیقت مردہ

(۱۹) کیسے اکثر گناہ لاحق ہو جاتا ہے

ہے۔ باحقیقت اللہ تعالیٰ پر انحصار کرتا ہے اور بزرگانِ دین کے ساتھ ساتھ رہتا
ہے۔ اور بے حقیقت اپنے عمل پر انحصار کرتا ہے۔ جو عمل عمل کرنے والا
کو رہا ہو اس میں جب خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور مخلوق اللہ کو اس سے فائدہ
پہنچنے لگ جاتا ہے تو اسے نفس ابھار دیتا ہے کہ اب تو ولی ہو گیا ہے۔ جو تو
کہہ رہا ہے وہی سو رہا ہے۔ عام لوگ بھی اسی کو بزرگی سمجھتے ہیں اور جس
سے ایسا سو رہا ہے وہ بھی اسی کی بزرگی سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ناقص
عمل کی وجہ سے اس میں الجھ جاتا ہے جب الجھ جاتا ہے تو نفس کے پھندے

میں آجاتا ہے۔ نفس کا کارن برائی ہے اسی لیے وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کسب ہے۔ جو با حقیقت انسان ہیں وہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور وہ بزرگان دین کے راستہ پر رہتے ہیں۔ ان کا عمل جو بھی ہوتا ہے کسی نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ صبر اور رضا کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیاروں کا ساتھ ساتھ رکھے اور غیر سے محفوظ رکھے بزرگان دین کی دعا و برکت سے۔ امین ثم امین

— (۲۰) —

اہل تصوف - یہ اللہ تعالیٰ

کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ شدید

اہل تصوف و اہل حق

سے تعلق رکھتے ہیں اور کتاب سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح اور مذہبوں والے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی شدید اور کتابوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔

اہل حق :- ان کی دین سے بنیاد رکھی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے با وضو رہتے ہیں پانچ وقت، سات وقت اور ہر وقت اور اللہ تعالیٰ سے پاک رہتے ہیں۔ لفظ می اپنے آپ پر خود دلالت کرتا ہے۔ اہل حق حق کو وہ پاسکتا ہے جو اہل ہو اور جو حق کے اہل ہو اہل کون ہے ؟

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانوس ہے۔ ہمیں محبوب کے اہل ہو جانا چاہیے۔ اہل ہونے کی مسلمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ محبوب سے با وضو رہے۔ اہل تصوف کتاب و شدید سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل حق وہ حق کے ساتھ تعلق

رکھتا ہے۔ جس طرح عاشق اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل تصوف روحی، قلبی، نفسی اور سمتری انہی مقامات میں الجھا رہتا ہے۔ جس میں جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر سلطان باہو فرماتے ہیں کہ
 قلب جے پلایاں کی ہویا کی ہویا ذکر زبانی ہو
 روحی قلبی نفسی سمتری سمیٹے راہ حمیدانی ہو

اسی مقام پر حضرت میراں سید بھیکھ فرماتے ہیں

پڑھنا گنا کسب ہے اور سوا ہے جیب
 جس پڑھیاں شوہ ملے اور پڑھنا کے نصیب

بزرگان دین فرماتے ہیں با حقیقت زندہ ہے اور بے حقیقت مردہ۔ کتاب شنید
 میں جو الجھا رہیگا وہ بے حقیقت رہیگا۔ جو حق والوں سے لگا جائیگا اُسے حق عطا
 ہو جائے گا۔

تقدیر پر سبب کے ساتھ والبتہ ہے جو سبب سے گزر

(۲۱) تقدیر

جاتا ہے تقدیر اُس کے تابع ہو جاتی ہے۔ انسان کا

اپنا سبب ذاتی تقدیر کا بلاوا ہے۔ بزرگان دین سبب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے وسیلہ اور وصال کا دروازہ ہیں۔ کیونکہ بزرگان دین واصل ہیں جو

انہیں وسیلہ پاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے

ہیں شرک سے پاک ہونے کی بس ایک ہی صورت ہے سبب سے دور شرک سے

دور۔ تعین سے پاک۔ اس مقام پر سایہ جلول ہو جاتا ہے جیسے روشنی میں اندھیرا۔

روشنی کا کوئی سایہ نہیں، اندھیرے کا سایہ موجود ہے۔ ہر مقام پر پایہ ذاتی ہے۔
 روشنی ساکن ہے اندھیرا متحرک ہے۔ روشنی گل ہے اندھیرا جزو ہے۔ روشنی
 کے معنی لطافت ہے اور ساتھ ساتھ ہی خیر بھی موجود ہے۔ اندھیرا کثافت ہے اور
 ساتھ ساتھ نجاست بھی موجود ہے۔ اندھیرا دنیا ہے اور روشنی دین ہے۔

پیارو! جان لو۔ جس سبب کا نتیجہ رتبہ ہو وہ سبب کامل ہے اور لطافت
 کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس سبب کا نتیجہ دنیا ہو وہ سبب ناقص ہے اور
 کثافت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
 کو ذاتی سراجاً منیراً فرمایا۔

— (۲۲) — قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي —

روح۔ پیارو! جان لو حقیقت روح جو ہے وہ امر رب

کا ہے۔ جو صاحب اللہ تعالیٰ کے امر میں رہتا ہے وہ روح ہے۔ جو صاحب نفس
 کے تابع رہتا ہے وہ بے روح ہے کیونکہ روح امر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جو
 صاحب اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع رہتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے با وضو
 رہتا ہے وہ روح با حقیقت ہے اور جو نفس کے تابع رہتا ہے وہ بے روح ہے
 اور بے حقیقت ہے۔

پیارو! عمل کو فضیلت نہیں۔ محبوب کے رُخ کو فضیلت ہے۔ عمل تو اور

نذیبوں میں بھی ہو رہا ہے صرف نام بدلے ہوئے ہیں۔ وضو اور نماز کسی اور

نذیب میں نہیں ہے۔ جو صاحب اللہ تعالیٰ سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ

حقیقت ہے اور جو صاحب محبوب سے با وضو ہو جاتا ہے وہ با حقیقت ہے۔

(۲۱) ستاروں کا تقدیر سے تعلق
ستاروں سے انسان کی تقدیر کا کوئی
تعلق نہیں۔ جتنا یہ چاہیے کہ ستارے

کا مقام بلند ہے یا انسان کا مقام بلند ہے؟ ستارے انسان کے لیے
ہیں یا انسان ستارے کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ستاروں سے پاک ہے۔
پیار و حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ستارہ دیکھ پائے انسان پیارے!
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ستارہ جو محبوب کی زمین کو دیکھ لیتا
ہے وہ تر جاتا ہے دونوں جہانوں میں۔ تمام روشنیاں بزرگانِ دین کی روشنی
سے ضیاء رہی ہیں۔ سراجاً منیراً۔ اللہ تعالیٰ نے چراغ جلایا خلوت اور
خلوت کے اندھیرے کو روشن کرے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وحدانیت کا چراغ
جل رہا تھا چراغ سے چراغ لگا یا گیا ہے۔ شریعت کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کو روشن کیا گیا۔ طریقت کی رو سے منور کیا گیا محبوب کو۔ حقیقت کی رو سے جمال
عطا کیا گیا محبوب کو۔ اور معرفت کی رو سے کمال عطا کیا گیا محبوب کو۔

جمال محمد کمال محمد

یہ چار مقام اللہ تعالیٰ نے ضیاء کے رکھے ہیں اس کے علاوہ جو اور ہے وہ
سب اندھیرا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جس ستارے کو انسان مان لے گا وہ
ستارہ انسان پر غالب آجائے گا کیونکہ اُس نے ماسوا کو مان لیا۔ اور جو صاحب
اللہ تعالیٰ کو جان لے گا ستارہ اُس کے تابع ہو جائے گا۔ شنید جزو ہے
کتاب جزو اعظم ہے اور ام الكتاب کُل ہے۔ حقیقتاً پہلے جزو اور جزو اعظم کُل کے
جزو ہیں۔ جسے کُل عطا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں مقام (جزو اور جزو اعظم) اس

کے جزو ہو جاتے ہیں۔ کل دعویٰ ہے جزو اور جزو اعظم یہ دونوں ثابت ہیں۔ دعویٰ موجود ہو تو شہادت ہوتی ہے۔ اگر دعویٰ ہی موجود نہ ہو تو شہادت غیر کام دیتی ہے۔ پیارے! یہ سب امور صداقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ صداقت کے لیے غیر بھی خیر ہو جاتی ہے۔ اگر صداقت موجود نہ ہو اس کے لیے خیر غیر بن جاتی ہے جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ جن لوگوں کے اندر جہل تھا وہ جہل کے بیٹے بن گئے۔ اس مقام پر حضرت مولوی غلام رسول فرماتے ہیں:

جاہل آپ لوں سٹ چو ماردا اے
کوئی کیسے توڑی سکدا مار نہیں

قرآن پاک حکم ہے
اللہ تعالیٰ کا حکم

(۲۴) معجزہ قرآن پاک

ماننا ضروری ہے جانتا ضروری نہیں پہلے قول ہے اس کے بعد اعمال ہے۔ اعمال کے بعد علم ہے۔ ماننے کے معنی عمل ہے۔ عمل کے معنی علم ہے اور علم کے معنی جانتا۔

پیارو! حکم کو جاننے کی کوشش نہ کرو مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے۔ قول سوادری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعمال تک پہنچا دینے کے لیے عنایت کی ہے۔ اعمال بزرگان دین۔ اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں اور جو وہ جان رہے ہیں دل سے جان رہے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا قول حکم ہے۔ اعمال بزرگان دین کا

وجود ہے۔ علم بزرگان دین کا دل ہے۔ اخلاص یہ انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل دل کے لیے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل عنایت کیا۔ فرشتے کو دل نہیں عنایت کیا عمل عنایت کیا ہے۔ اس لیے فرشتے علم کو جانتے ہی نہیں

قرآن پاک کو جاننا ہو تو بزرگان دین کو جانو۔ اگر بزرگان دین کو نہ جانو گے تو قرآن پاک کا جاننا تمہارا اپنے علم سے ہوگا۔ انسان کا علم حادث ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور قدیم ہے۔ قدیم قدم سے بنتا ہے۔ قدم بزرگان دین کا نقش قدم بناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔

بزرگان دین کو جاننا یہ قرآن پاک کو جاننا ہے۔ ان کے قول کو سننا یہ قرآن پاک کو سننا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا یہ سنت ہے اور سننا فرض ہے۔ اسی مقام پر حضرت مولانا روم فرماتے ہیں :-

عظ
معنی قرآن ہم میں قرآن بیان ہمارا

اللہ کے پیارو! اٹھو۔ قرآن پاک سے دین کا بھی فائدہ اٹھا لو اور دنیا کا بھی فائدہ اٹھا لو۔ جس جا پر مصائب و آلام جمع ہو جائیں۔ وہاں قرآن پاک سارا پڑھ کر ختم کرو دنیا چاہیے۔

اب حال پر رات قدر (سیدۃ القدر) کی کونسی ہے؟ اللہ کے مقبول اور محبت جب تہجد کے وقت اکھٹیں ان میں آفت ہو، سوز ہو، گداز ہو اور ساز ہو۔ اس ساز سے مراد طاؤس اور طوطی نہیں ہے۔ وہ خاص

کلمات پیارے کی زبان سے کہلوائے جاتے ہیں اور سُننے جاتے ہیں حال پر۔
جس رات کو جس پیارے پر چاروں مقام آجائیں۔ الفت، سوز، گداز اور
ساز، اس پر رات قدر کی آجاتی ہے۔ اس پیارے کا قطرہ سمندر اور درود

پہاڑا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ قطرہ چشم سوز الفت۔ اس لیے بزرگان دین
فرماتے ہیں قرآن پاک ختم کرنے سے تمام مصائب و آلام ختم ہو جاتے ہیں جب
تک مصائب و آلام ختم نہ ہوگی۔ بار بار اسی عمل کو دہرانا چاہیے۔ واسطے
ہر کام کے سلامتی رہیگی۔ یہ عمل کرنے والا اپنی طرف سے کسی دنیاوی کام
کی نہی ابتدا نہ کرے۔ اگر کرے گا تو سلامتی کی وحدانیت ٹوٹ جائے گی۔
نہی ابتدا کیا ہے؟ بسوا اللہ کے اور کچھ چاہنا۔ اپنی طرف سے ابتدا
نہ کرے ساکن رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔

اللہ کے پیارو۔ آؤ۔ قرآن پاک سے دین اور دنیا کا فائدہ اٹھاؤ۔
بزرگان دین فرماتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنا یہ بزرگان
دین کا خاص ایک رکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو بھی
اللہ تعالیٰ کا محبت عمل کرے وہ اولیٰ ہو جاتا ہے، جس کا عمل اولیٰ ہو جاتا ہے وہ
اولیٰ ہو جاتا ہے، اولیٰ کا پہلا مقام تحمل والا۔

جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہ پڑھے گا وہ بزرگان دین کی صف میں شمار نہ
کیا جائیگا۔ جو صاحب قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں وہ کوئی نہ کوئی سُورت
یاد رکھے۔ اولیٰ سورۃ منزل یاد رکھتے ہیں۔

صاحبو! صبح کی نماز کے بعد سورۃ منزل پڑھی جائے پھر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اس کا عمل بھی اتنا ہی ہوگا جتنا قرآن پاک پڑھے ہوئے گا۔
دُعا کے دو شاہد ہیں۔

دُعا درود پاک اور والدین کے لیے دعا مغفرت۔

اللہ تعالیٰ کے دربار میں جس وقت مومن کوئی دعا کرے۔ کم از کم تین مرتبہ صلوٰۃ و سلام پڑھے اور درود بھیجے۔ دو تین مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے مغفرت کرے، جس دعا میں یہ رکن موجود ہو جائیں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔

(۱) دعائیں درود پاک پڑھنا، ابتدا میں محبوب پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا

(۲) قرآن پاک پڑھنا صبح کی نماز کے بعد۔

(۳) اور ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔

جس دعا میں یہ تین رکن پائے جائیں گے وہ دعا جلدی سے جلدی قبول ہو جائے گی۔

عوام الناس کے لیے ذکرِ خفی کی زیادہ فضیلت

(۲۵) ذکرِ خفی و ذکرِ علی

ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے۔

خاص کے لیے ذکرِ خفی کی بھی فضیلت ہے اور ذکرِ علی کی بھی فضیلت ہے۔ خاص

اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر مقام پر ٹھیک

ٹھیک رہتا ہے۔

خاص الخاص۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ

کی مخلوق کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت اترتی

ہے اس کے پاس۔ وہ ہمہ وقت مخلوق اللہ کو تقسیم کرتا رہتا ہے۔ یہ سب مقام رحمت اور برکت کے ہیں۔

تقسیم کیا ہے؟ ہدایت اور نوری نوری ہدایت۔ بغیر ہادی کے ہدایت ہو سکتی ہے۔ نوری ہدایت نہیں ہو سکتی۔ نوری ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہادی کو، ایک مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہدایت دعویٰ ہے، نوری ہدایت اس کا شاہد ہے جس دعویٰ کا کوئی شاہد نہ ہو وہ دعویٰ قابلِ سماعت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔

ہدایت کا مرتبہ۔ ہاتھ امین جو ہر مقام پر

نوری ہدایت کا مرتبہ۔ زبان برائی سے پاک ہو۔

حلال چیزیں حلال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہیں اپنے محبوب کے

لیے (صلی اللہ علیہ وسلم) تکبیر ہو جائے تو طیب ہو جاتا ہے۔ تکبیر نہ ہو تو خطرہ

موجود رہتا ہے ہر مقام پر۔ یہ خطرہ خطرے سے خالی نہیں۔ کیونکہ تکبیر کے شاہد

بزرگان دین ہیں۔ جس پر تکبیر نہ ہو وہ غرور ہے اور غیر ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو مقام تسلیم و رضا عطا فرمائے بزرگان

دین کی دعا و برکت سے۔ (امین ثم امین)

(۱۱۱)

ان الفا۔ ولی کے

سامنے اللہ تعالیٰ

الفا و رو، الہام اور نظر بصیرت

کا فرمان عبارت کی صورت سے آنا

(۲) و رو۔ سائل کے سوال کے لیے کفیل ہونا اللہ تعالیٰ کا۔ چاہے

سائل کی صورت قول سے ہو یا اعمال سے ہو یا علم سے ہو یا اخلاص سے ہو۔
 ورو کی حقیقت۔ نہ ہونے کو ہونا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب
 حال کے لیے۔ یہ ورو ہے۔

دلی نہ نماز کے سبب سے جنت میں جائے گا نہ روزہ کے سبب سے
 جنت میں جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیگا۔ سخاوت،
 پاک دلی، نصیحت اور شفقت کے سبب سے جنت میں جائیگا۔
 حدیث شریف میں ہے۔ سخی کافر بھی ہو اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت
 فرماتا ہے۔

سخی کا مدارج "نہ" سے پاک ہے۔ سخاوت گزر جانے پر جاری ہے ہر
 مقام پر۔

سخی کو اللہ تعالیٰ نے تین مقام عطا فرمائے ہیں۔ سائل جس وقت آتا
 ہے اس کا مقصود موجود ہو تو آتا ہے۔ کیونکہ بھینے والا علم سے بھینتا ہے۔
 پہلا مدارج۔ خلوت میں تلاش کرے صاحب حال مقصود سائل کا۔
 اگر وہاں نہ ہو تو خلوت میں تلاش کرے صاحب حال۔ خلوت میں نہ
 ملے تو جو سائل درپہ آ یا ہوا ہے اس کا مقصود اس کے پاس ہوگا۔ صاحب حال
 تلاش کر کے اسے مقصود دے اور بے نیاز کرے سائل کو جیسے بے نیاز
 کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حال کو۔

(۳) الہام (خواب) اللہ تعالیٰ انہی علم کسی کو نہیں دیتا مگر جسے چاہے۔
 اور ابدی کے متعلق راز افشا کیا جاتا ہے محبوب (دلی) پر۔

جن جن مقاموں پر نقصان پہنچے گا احتمال ہو اس کے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے۔ عام کے لیے خاص کے لیے اور خاص الخاص کے لیے۔ جو لوگ محبوب کے حکم کو اللہ تعالیٰ کا حکم جان کر اس پر کاربند رہتے ہیں۔ ان پر جو نقصان کے مقام آنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔

بزرگان دین جو فرماتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے وہی ابدی ازلی بن کر وارد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا کوئی تدارک نہیں رہتا۔ اسی لیے بیان دیا ہے بزرگان دین نے موت و قسح کی ہے ازلی اور ابدی۔ جو صاحب ابدی کو قبول کر لیتے ہیں ازلی اس کی سواری بن جاتی ہے۔ اور جو صاحب ابدی کو قبول نہیں کرتا ازلی اس پر سوار ہو جاتی ہے۔

ابدی حال ہے ازلی مستقبل ہے۔ جو صاحب حال کو قبول کر لیتا ہے مستقبل اس کے لیے حال بن جاتا ہے۔ حکم سب ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کائنات محبوب کے لیے ہے۔ اور جہاں جہاں مخلوق کو نقصان پہنچے گا احتمال ہو۔ اس کے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے عام کے لیے خاص کے لیے اور خاص الخاص کے لیے۔ جو لوگ محبوب کے امر کو مان لیتے ہیں ان کے لیے وہی ازلی ابدی بن جاتی ہے۔ وہ صاحب صاحب حال ہو جاتا ہے اور مستقبل اس کا شاہد ہو جاتا ہے۔ جو صاحب امر کی حد کے اندر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ازلی اسے معاف کر دیتا۔ ابدی اسے عطا کر دیتا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آگے وہ محفوظ رہے۔ جنہوں نے تقسیم نہیں کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ولی کا اپنا ذاتی نہ صفاتی، کوئی زبیر زبیر، لفظ، لفظ۔

اور حرف نہیں ہوتا۔

پیارو یا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں۔ بزرگانِ دین کتاب اور شنید سے نہیں ہیں کتاب اور شنید بزرگانِ دین سے ہے۔ عام شنید کے ساتھ ہے خاص کتاب کے ساتھ ہے اور خاص الخاص اسم کتاب کے ساتھ ہے۔

(۴) نظر بصیرت - جو صاحب اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ کثافت کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ یہ آنکھ کثیف ہے اور کثیف ہی کو دیکھ رہی ہے اور جو صاحب معنوں کے اعتبار سے دیکھتا ہے وہ لطافت کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ نظر بصیرت اُسے عطا ہو جاتی ہے۔ پہلے قول ہے اس کے بعد اعمال سے اور اعمال کے بعد علم ہے۔ جسے علم الہی عطا ہو جاتا ہے اُسے علم کی آنکھ عطا ہو جاتی ہے وہ صاحبِ روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ جو صاحب اپنے علم سے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اُسے عطا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگانِ دین نے بیان دیا ہے۔ ساری کائنات کی بنیاد اربعہ عناصر سے ہے۔ بزرگانِ دین کی ابتداء عشق سے ہے۔ جن لوگوں کا تعلق اربعہ عناصر سے ہوگا۔ اُن کی بصیرت بھی اربعہ عناصر سے ہوگی۔ اُن کا ورود بھی اربعہ عناصر سے ہوگا۔ اُن کا الفا بھی اربعہ عناصر سے ہوگا۔ جس صاحب کی بسم اللہ عشق سے ہوگی اُسے نظر بصیرت بھی اللہ تعالیٰ سے عطا ہوگی۔ الفا بھی اللہ تعالیٰ سے عطا ہوگا اور ورود بھی اللہ تعالیٰ سے عطا ہوگا اربعہ عناصر سے جو تمام تعلق رکھتے ہیں وہ نام وہی ہوگا، الفا نام نہیں ہوگا۔ الفا نام میں موجود

نہیں، انعام اللہ تعالیٰ سے ہے۔

فلاح کس لیے نہیں ہے؟ اربعہ عناصر والے جو ہیں وہ نام سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو عاشق ہیں وہ نام سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور نام والے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اربعہ عناصر کے جتنے مقام ہیں وہ کثافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عشق کے جتنے انعام ہیں وہ لطافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولیاء اولیٰ غوث قطب اور ابدال جزو کی بھی صورت رکھتے ہیں۔ جزو اعظم کی بھی صورت رکھتے ہیں اور کل کی بھی صورت رکھتے ہیں۔ کسی کو نظر بصیرت عطا ہوتی ہے کسی کو درود عطا ہوتا ہے کسی کو القاء عطا ہوتا ہے۔ یہ تینوں انعام کل کو عطا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کو عطا ہوتے ہیں اور کل سے عطا ہوتے ہیں۔

بزرگان دین نے بیان دیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور مرسل آئے جزو اور جزو اعظم کی صورت سے آئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب مقامات عطا کیے اور حضور پر نور کل ہوئے۔ سب نبیوں کے تمام مقامات اور انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔

اب قیامت تک اولیائے امت

کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنتے رہیں گے۔ اسی سمندر سے تمام ندیاں اور نالے قیامت تک چلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتے رہیں گے محبوب کی بدولت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب صاحبوں کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر مقام پر سلامتی عطا فرمائی۔ (آمین)

بیان شہادت

اللہ کے پیار و سزا مومن اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر لڑ رہے ہیں۔ کیونکہ جہاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور
محبوب کا راستہ ہے۔ جو اس راستہ پر شہید ہو جاتا ہے اسے شہادت اللہ تعالیٰ
کے فضل سے عطا ہو جاتی ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر لگ جانا
ہے۔ یہ لگن ایسی لگن ہے۔ پہلے جو لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستہ پر یہ
ان سے لگ جاتے ہیں۔ شہدائی جماعت استرا سے بنتی چلی آئی ہے اور انہما
تک بنتی رہیگی۔

پیارو۔ حال پر ہو کیا رہا ہے؟ جو پہلے جماعت بنی ہوئی ہے، حال پر جو لڑ
رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر۔ ان کی
مدد کے لیے تمام شہداء آجاتے ہیں حال پر وہ جماعت شہداء کی معنوں کے اعتبار
سے بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور صورت کے اعتبار سے بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ
برگزیدہ انسان ہر حال میں ثابت رہتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ جو جماعت حال
پر خلوت کی صورت سے لڑ رہی ہوتی ہے وہ شہداء کی جماعت کی برکت کی وجہ سے
ثابت قدم رہتی ہے اور کامیاب رہتی ہے۔ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ
پر کام آجاتے ہیں وہ شہداء میں شامل ہو جاتے ہیں اور جو صاحب باقی رہ جاتے ہیں
انہیں تازی ہونے کا مقام اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔

ساحبوا من لہ۔ شہید شہادت سے بنتا ہے۔ مومنین اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے

ہیں اور محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے راستہ پر لڑ رہے ہوتے ہیں حال پر۔ حکم ایک
 دعویٰ ہے جو حکم کو مان لیتا ہے جس کا حکم ہوتا ہے وہی اس کا شاہد ہے۔ محبوب
 کا راستہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ جو محبوب کے راستہ پر لگ جاتا ہے محبوب اس کا شاہد
 ہے۔ اس لیے شہید کے دو شاہد ہیں۔

اللہ تعالیٰ شاہد ہے شہید کا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب شاہد ہے شہید کا۔
 حکم کو ماننا ضروری ہے جاننا ضروری نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 اطیعوا اللہ واطیعوا اللہ رسول واطیعوا اولی الامر منکم۔

مومن کی شان۔ شانِ تسلیم۔ بزرگانِ دین نے حال پر جہاد کے چار مقام
 فرمائے ہیں:-

(۱) پہلا جہاد نفس سے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔

(۲) دوسرا جہاد۔ جان سے۔ جان کو محبوب کے راستہ پر لگانا۔

(۳) تیسرا جہاد۔ مال سے۔ مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔

(۴) چوتھا جہاد۔ زبان سے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر۔

کرنا اور محبوب پر صلوات و سلام بھیجنا۔ درود پاک جاری رکھنا یہ مومن کا شیوہ ہے۔
 جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ اشرف کے یہ چار مقام عطا کر دیتا ہے وہ انسان با شرف
 ہو جاتے ہیں۔

سب اللہ والے عام کے لیے بھی دعائے خیر کو رہے ہیں۔ خاص کے لیے بھی

دعائے خیر کو رہے ہیں اور خاص الخاص کے لیے بھی دعائے خیر کو رہے ہیں۔ تمام مجاہدین

اسلام، تمام مومنین اور مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور محبوب کے راستہ پر

طرز ہے ہیں، دعائے خیر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے اور حفاظت فرمائے جس طرح بزرگان دین کی حفاظت فرمائی ہر مقام پر اپنی رحمت سے۔ آمین ثم آمین۔“

(۲۸)

بیان خرد و موش

حدیث: - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ سَيِّدِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَدِينَةِ يَأْتِيهِمْ النَّاسُ قَالُوا مَا تَصْنَعُونَ يَا رَافِعُ قَالَ لَدُنَّكُمْ لَوْ كُمْ لَفَعَلُوا إِيَّانَ خَيْرًا فَتَوَكَّرُوا فَتَقَصَّصْتُ قَالُوا فَكُرُّوا إِذْ ذَٰلِكَ لَهُ - فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَحْرَقْتُكُمْ وَبَشَرٌ إِذَا أَحْرَقْتُمْ لَكُمْ
فَخَذُوا بِي - وَإِذَا أَحْرَقْتُكُمْ بَشَرٌ إِذْ ذَٰلِكَ لِي فَأِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ - (مسلم)

ترجمہ: - روایت ہے رافع بن خدیج سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کھجوروں کی تادی کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے ہم پہلے سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ممکن ہے تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو۔ لوگوں نے یہ شادی چھوڑ دی پھل کم ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہوں۔ جب تم کو کسی دینی کام کا حکم دوں تو اسے لے لو اور جب اپنی رائے سے کچھ فرماؤں تو میں بشر ہی ہوں۔

(کھجوروں کی مصنوعی افزائش تولید کے مشہور واقعہ اور حضور انور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں استفسار کیا گیا تو حضور پر نور قبلہ فضل شامہ صاحب قطب عالم مدظلہ العالی نے مندرجہ ذیل بیان ارشاد فرمایا)

کی اور بشری کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ تعمیل حکم کرنے والے کو محبوب سے پوچھ کر ناسی نہیں چاہیے تھا۔ پوچھنے کی جاتی تو ایسا انعام ملتا جو اس ظاہری فائدہ سے بہت بڑا ہوتا۔ پوچھنے کی

گئی تو جواب یہی تھا کہ جو مرضی میں آئے کرو۔

فرمایا پوچھنے سے پہلے صرف معنوں کے لحاظ سے حجاب حائل تھا۔ پوچھنے کے بعد معنوں کے اعتبار سے بھی حجاب حائل ہو گیا اور صورت کے اعتبار سے بھی حجاب حائل ہو گیا۔ وضاحت کے سلسلہ میں یہ بیان ارشاد فرمایا گیا۔

”جب امر دیا جاتا ہے تو مقام دو ہوتے ہیں، امر اور نہی۔ جب امر سوچنا ہے تو نہی کا مقام محب کے لیے نہیں رہتا۔ اگر پوچھا جاتا ہے تو بزرگان دین چھوڑ دیتے ہیں۔ کے مجال پر نہ پوچھا جائے تو علم عطا ہوتا ہے۔

محب میں جب پوچھنا مقام آتا ہے تو بزرگان دین اس کو اسی کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ ہونا، نہ ہونا ان دونوں مقاموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لے رکھا ہے۔ محب نہ ہونے پر پوچھنا رکھتا ہے نہ ہونے پر پوچھنا رکھتا ہے۔

نہ ہونے پر پوچھنا ہو تو قبض ہے۔ نہ ہونے پر صبر ہو تو بسط ہے۔

ہونے پر شکر یہ ہو تو یہ بسط ہے۔ اور شکر یہ کی ادائیگی نہ کی جائے تو یہ قبض ہے۔

نہ ہونے پر صبر کرتا ہے محب۔ اور ہونے پر شکر یہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے

بزرگان دین نے بیان دیا ہے کہ محب اپنی محبوب کے ساتھ نہ کوئی ذاتی صورت رکھتا

ہے نہ صفاتی صورت رکھتا ہے۔ ذات سے بھی نرمل رہتا ہے اور صفات سے

بھی نرمل رہتا ہے۔

نفس وقتی فائدہ کہ مد نظر رکھتا ہے اور دائمی فائدہ سے دور رکھتا ہے

بزرگان دین جو فرماتے ہیں وہ دائمی فائدہ کے متعلق مخلوق کو خطاب کرتے ہیں

مخلوق وقتی فائدہ کے درپے ہوتی ہے اور خاص دائمی فائدہ کے درپے ہوتی ہے۔

ہیں۔ خاص الخاص نہ دائمی فائدہ سے تعلق رکھتے ہیں نہ وقتی فائدہ سے تعلق رکھتے

ہیں۔ صرف حکم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں جس سے منع کیا جائے وہ منع ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ کے محبوب کا امر عام کے لیے بھی وہی ہے، انخاص کے لیے بھی وہی اور خاص انخاص کے لیے بھی وہی ہے۔

عام لوگ جب محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ اپنے منافع کے لیے حکم چاہتے ہیں اور خاص لوگ دین کے لیے حکم چاہتے ہیں اور خاص انخاص حکم کو اپنا گھر بناتے ہیں۔

حقیقتاً عام لوگ جو حکم لیتے ہیں وہ اپنی غرض رعایت کے لیے لیتے ہیں۔ ان کے لیے محبوب کا کوئی حکم نہیں جس غرض رعایت کے لیے حکم لیتے ہیں اگر وہ سو جائے تو حکم ان کے لیے حکم رہتا ہے نہ اگر نہ ہو تو حکم ان کے لیے حکم نہیں رہتا۔ وہی ان کے لیے قبض بن جاتا ہے۔ جس وقت حکم حکم نہ رہے جس لیے وہ حکم لیتے تھے وہ نتیجہ نہ نکلے تو عام کے لیے حیرانی کا مقام آ جاتا ہے اس کے بعد شیشانی ہوتی ہے۔ جہاں شیشانی آجائے پھر دوبارہ حکم کی دہاں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جو حکم پہلے ہو چکا ہو جس پر اگر پہلے حکم پر راضی رہے تو حیرانی اور شیشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ کمی اور زیادتی کا اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لے رکھا ہے۔ منافع بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کمی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس میں پوچھ نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھ ہوگی، جو اسے ملنے والا تھا، ملنے کا مقام نہیں رہیگا اور اسی پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جاننے والی یہ بات ہے اس مقام پر محبوب کے میل جول سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ جو پہلے کر رہے تھے وہی کرنا پڑا۔

خاص لوگ جو شریعت کی صورت سے ہیں وہ جانتے ہیں، منافع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حیرانی بھی وہاں نہیں آتی اور پشیمانی بھی وہاں نہیں آتی اور نہ ہونے پر پوچھ کا مقام ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ خاص لوگ فلاح کے زمرہ میں شمار ہو جاتے ہیں اور خاص الخاص محبتیں محبوب کے خلوت میں کوئی صورت نہیں کہتے سوائے محبوب کے۔ چاہے بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے ان کے لیے محبوب کا حکم حکم ہے وہ حکم کو گھر بنا لیتے ہیں اور حقیقتاً محبوب حکم ہو جاتے ہیں۔

عام لوگ جو سمجھتے ہیں حضور پر نور کے متعلق کہ حضور نور دین کا علم جانتے تھے اور دنیا کا علم نہیں تھے۔ جان لینا چاہیے صاحبو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات بنائی جس کے لیے کائنات بنائی وہی کائنات کا عالم ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس کا علم نہ جانے گا تو اور کوئی دوسرا جاننے والا نہ پیدا ہو سکے گا نہ کہیں سے مل سکے گا۔ جتنی شیں اللہ تعالیٰ نے بنائیں محبوب کے لیے۔ شیں بھی عطا کیں ساتھ جانیں بھی قربان کیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے۔ سب سے زیادہ شے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے جو شیں بنائیں، غیب ان میں رکھا ہوا ہے۔

عام لوگ اور خاص لوگ صراطِ القہر بنا سکتے ہیں یا شکل و صورت دیکھ سکتے ہیں۔ یا رنگ و بنا سکتے ہیں حقیقتاً شکل و صورت بھی محبوب کے لیے، رنگ و صورت بھی محبوب کے لیے ہے اور اس کا ذائقہ بھی محبوب کے لیے ہے اور فواید سب سے وہ غیب میں ہے۔ وہ جس کیلئے سب شیں بنائی ہیں اسی کو وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے محبوب کیلئے بنایا تو اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا کیا ہے۔ عام لوگوں کیلئے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ جو بات دین کی سمجھی جاوے سمجھ لو اور جو نہ سمجھی جاوے اس پر قوت و مت لگاؤ کہ یہ غلط ہے۔ جو غلط جانتے والا ہے، حقیقتاً وہ اس کا علم نہیں جانتا۔ اس کیلئے وہ غلط کیونکہ وہ خود غلط ہے۔ جو جان سکو جان لو، جو نہ جان سکو اس کو خدا پر چھوڑ دو۔ جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرنے کا پھر یہی "غلط" ہمارے لیے تا صبح ہو گا کہ کبھی "صحیح" بھی آنا صحیح نہ تھا۔ غلط جاننے والا، حقیقتاً وہ اپنے ایک تمام کو غلط کر لیتا ہے۔ وہ ساری عمر کے لیے اس سے گزر جاتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی رہے خدائی ڈیوٹی ادا کرے۔ کیونکہ کئی اور مہشی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔

الترحمون قاسلٌ يدٌ خبيراً
(پ فرقان)

(۵) مہر والا ہے، پس جاننے والے (مردِ عارف) سے اس کے اوصاف پوچھو!

تشریحات آں بابو



تعارف

حضرت سلطان العارفين سلطان بامو کو تصوف سے تعلق رکھنے والے عام
 نخاص اور خاص النخاص سمجھی لوگ جانتے ہیں۔ آپ اس زمانہ میں تصوف کے
 بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ آپ باور زاد ولی تھے۔ نو عمری میں ہی آپ انوار الہی
 اور تجلیات الہی میں متصرف رہتے تھے جو آپ کو دیکھ پاتا دیوانہ و مستانہ ہو جاتا۔
 اس چشمہ معرفت سے بے شمار مخلوق خدا راہ راستہ پر آئی۔ حال پر بھی آپ کا
 دریا قدموں میں مرجع خلائق عام و خاص ہے۔ آپ علم ظاہری نہیں رکھتے تھے بلکہ اُمّی
 تھے۔ اس مقام پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کتاب شنید سے نہیں ہیں
 بلکہ کتاب شنید بزرگان دین سے ہے۔ عام شنید کے ساتھ ہے۔ خاص کتاب کے
 ساتھ ہے اور خاص النخاص اُمّی کتاب کے ساتھ ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ
 یہ علم اللہ تعالیٰ اُمّی کو عطا فرماتا ہے اس لیے کہ مخلوق خدا یہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ
 کا پیارا کتاب شنید سے بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قول بھی عطا کیا تھا
 اعمال بھی عطا کیا تھا اور علم بھی عطا کیا تھا۔ علم الہی۔ آپ نے مخلوق خدا کو
 حقائق حقیقی عرفان ربانی سے روشناس کرایا ہے۔ آپ نے جو حقائق بیان کیے
 ہیں سوائے عارف کامل اور معارف مکمل کے اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

فارسی زبان میں آپ نے تصوف کی ایک سو چالیس کتب لکھی ہیں۔ وہ سب تصوف میں بلند مقام رکھتی ہیں۔ آپ نے جو کلام پنجابی ابیات کی صورت میں کیا ہے وہ سب حقائق حقیقہ اور جو اہر ریزوں سے مزین ہے۔ اولیائے کرام پر اکثر اور بعض بعض مقامات پر وجدانی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو کلام فرماتے ہیں وہ بھی حقائق حقیقی پر مبنی ہوتا ہے۔ عام مخلوق جو ظاہر یعنی سے تعلق رکھتی ہے وہ علم الہی کو نہیں پاسکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو پیمانہ ہوتا ہے اس سے ہی ماپتا ہے۔ انسان حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب قدیم ہے۔ حادث قدیم کے علم کو پاسی نہیں سکتا۔

عارف باللہ کے حقائق کو جاننا سوائے عارفِ کامل اور معارفِ کمال کے کسی کو علم نہیں کیونکہ عام مخلوق کا یہ مقام ہی نہیں۔ اس کے متعلق خود حضرت بامو قرآتے ہیں کہ

”عارفِ دی گل عارفِ جانے کی جانے نفسانی ہو“

عارف کے کلام کو عارف ہی جانتا ہے عام کو بھی وہاں درک نہیں۔ خاص کو بھی ہاں درک نہیں۔ خاص الخاص کو درک ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ

عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنا علم عطا فرمائے، وہی اس کلام کو جان سکتا ہے۔

محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عطا فرمایا۔ اس مقام پر حضور پر نور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں سب سے زیادہ انعام عطا کرنا چاہتا ہوں اسے اپنا علم عطا فرماتا ہوں

اور ہمیشہ کی جی تو نیک بظاہر فرماتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے مخلوق خدا کی بھلائی کا کام لینا چاہتا ہے تو اس بندے کو مخلوق خدا کی طرف اپنا علم عطا کر کے بھیجا جاتا ہے۔

معاہدہ ہو گیا کہ جس صاحب کو علم الہی ہو گا وہی حقائق کو کما حقہ بیان کرے گا اور اس کا بیان کرنا مخلوق خدا کی فلاح اور بہتری کے لیے ہو گا۔ مجازی علوم و فنون میں بھی ایسا ہی ہے۔

حضرت سلطان باہو گام کا وصال جمادی الثانی ۱۰۲۰ھ بروز جمعۃ المبارک کو ہوا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک پنجابی ابیات کا کسی برگزیدہ انسان نے آسان اور مقامی عارفانہ بیان نہیں دیا۔ اب حال پر سلطان العارفين آئے ہوئے ہیں اور وہی مقام رکھتے ہیں جو حضرت سلطان باہو گام کا تھا۔

ناظرین و سامعین کو اس مقام پر یہ جاننا ضروری ہے کہ سلطان باہو بھی ایک مقام کا نام ہے اور سلطان العارفين بھی ایک مقام کا نام ہے۔ مقام ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ہر زمانے میں سلطان العارفين اور سلطان باہو بھی موجود رہتا ہے۔ مقام دائم ہے آنے جانے والے حکم سے آتے جاتے ہیں۔

کسی نام کا انسان ہو جب وہ سلطان العارفين اور سلطان باہو کے مقام پر آجاتا ہے تو وہی سلطان العارفين اور سلطان باہو ہو جاتا ہے۔ قیامت تک مقامات جاری رہیں گے اور نام بدلتے رہیں گے۔ پیادوں کو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ جس زمانے میں جو صاحب اس مرتبہ پر آجاتا ہے اسے وہی مقام

عطا ہو جاتا ہے۔

صاحبو! ہو کا ہر وقت ذکر کرنے والا باہو ہو جاتا ہے اور ہو کو جاری کرنے والا سلطان باہو ہو جاتا ہے۔ یہ تقاضات قیامت تک جاری نہیں گئے۔ باہو ہوتے رہیں گے اور سلطان باہو آتے رہیں گے۔

حالی پر حضرت صوفی محمد زبیر صاحب، اچھرو شریف لاهور، امام العارفین، حضرت مولوی محمود حسین صاحب محبوب اللہ (گوچرانوالہ) حضرت خلیفہ محمد یوسف صاحب سراج اولیاء اولیاء پٹھی۔ شیخ دوست علی محمد صاحب کراچی۔ حضرت مرزا نجیب اللہ بیگ بہاولپور۔ شیخ عبداللہ صاحب بہاولپور۔ حاجی برکت علی صاحب (لاہور) حضرت مرزا محمد عبداللہ بیگ صاحب (بہاولپور) حضرت منظور حسین صاحب۔ حضرت میر یاقوت حسین صاحب۔ نثار قریشی صاحب۔ حافظ محمد اسماعیل صاحب۔ آغا علی بشر صاحب۔ احمد دستگیر صاحب۔ میاں بوستان خاں صاحب۔ شیخ سردار علی صاحب۔ حافظ محمد رمضان صاحب۔ سردار افضل صاحب۔ میاں سراج الدین صاحب۔ حضرت میاں محمد اسماعیل صاحب۔ نذیر احمد صاحب۔ حضرت سالار صاحب۔ خواجہ قمر الدین صاحب۔ خواجہ بیگ عبداللہ صاحب۔ چودھری نواب الدین صاحب (رحیم یار خان)۔ حضرت غلام نبی صاحب و حضرت علی محمد صاحب (لاہور) ماسٹر غلام علی صاحب و غلام قادر صاحب، صدر فی رحمت اللہ صاحب (لاہور)۔ چودھری سردار محمد صاحب (لاہور) خواجہ غلام فرید صاحب۔ شیخ محمد نجیب صاحب۔ حضرت رفیق شاہ صاحب، حافظ محمد حسین صاحب۔ چودھری عبدالغنی صاحب و بابا دوست شاہ صاحب۔ جو سب پالہ باز اور

عارف ہیں۔ اور پاکستان میں بے شمار انسان موجود ہیں جو پاکباز ہیں۔ ان دوستوں نے احقر راقم الحروف (نذر الاسلام) سے اصرار کیا کہ حضور پر نور خمس العارفين،

سلطان حقیقت، سراج اولیا، ————— سراج عاشقان، —————

سراج عارفان، قطب الاقطاب، غوث الاعظم، قلندر اعظم حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم مظلمہ العالی سے درخواست کی جائے کہ حضرت سلطان العارفين، سلطان

بامو کے پنجابی ابیات کی عارفانہ اور مقامی تشریح فرمائی جائے تاکہ اس مخزن حقائق سے مخلوق خدا کی رہبری ہو اور اس سے علم، خاص اور خاص الخاص سبھی استفادہ کر سکیں۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی اور حضرت سلطان بامو

کے چند ابیات کی عارفانہ شرح فرمائی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جو

تمام مخلوق کی فلاح و بہتری کے لیے شائع کی گئی ہے تاکہ اس سے مخلوق خدا دین و دنیا کا فائدہ اٹھا سکے اور صحیح راستہ فقر پر چل سکے۔

عارف کے کلام کو عارف کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے متعلق

تاریخ حضرت کی توجہ مبذول کرانے کے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس کو

حضرت سلطان بامو نے اپنی کتاب عین الفقیر میں لکھا ہے۔ اس واقعہ میں چند اولیائے کرام کے بیان

ہیں اور ان بیانیوں پر حضرت سلطان بامو نے بھی بیان دیا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت

سلطان بامو کے وصال کو قریباً تین سو سال ہو گئے۔ کسی نے آج تک اس بیان پر اپنا کوئی بیان

نہیں دیا۔ برگریدہ انسان آپ کے بعد بھی آئے۔ لیکن جزو اور جزو اعظم کی

صورت سے آئے۔ حضرت سلطان بامو کو اللہ تعالیٰ نے کل کا تمام عطا

کیا تھا۔ اس واقعہ میں تمام اولیائے کرام کے بیان، "بیانِ کل" سے تعلق

رکھتے ہیں جس پر گزیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ "نکل" کا مرتبہ و مقام عطا فرمائے
وہی اس کا بیان فرمے سکتا ہے۔

حال پر حضور پر نور شمس العارفین، سلطان حقیقت، معدن جود و سخا،
قلندر عظیم حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم مدظلہ العالی نے اس پر بیان دیا
ہے۔ "اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزو کا بھی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جزو اعظم
کا بھی مرتبہ عطا فرمایا ہے اور نکل کا بھی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضور پر نور یا درنا ولی
ہیں نہ بچپن میں آپ کی حالت متسانی تھی۔ ۱۲ سال متسانی حالت پر رہے اس
زمانہ میں جو زبان پاک سے فرماتے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں منظور ہو جاتا اور
اس کو عطا ہو جاتی۔ ایک بات غور طلب ہے کہ مقام مقدمہ پراولیا، ولیوں، غوثوں،
قطبوں، دیوانوں اور مستانوں کا میاں لگا رہتا ہے۔ ان کا مقام ساکن ہوتا ہے، ان میں سے
جس سے مخلوق خدا کی بھلائی کا کام لینا چاہتا ہے۔ اس کو مخلوق خدا کی طرف علم الہی
عطا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ جب انسان مست سے سب مست ہو جاتا ہے اور باسوش
ہوتا ہے تو پھر اس کے کلام کا کائنات میں جواب نہیں ہوتا۔ جب آپ کی متسانی حالت
تھی، جس پر نظر پڑتی وہ نگاہ کا شکار ہو جاتا۔ وہ دیوانہ اور مستانہ ہو جاتا۔ اب
حال پر بھی یہ کیفیت موجود ہے۔ اس زمانے میں بزرگان دین کی مجلس میں سے
اکثر دیوانے اور مستانے ہو جاتے۔ آپ جس کو چہ و بازار میں سے گزرتے، صدق و
صدقا کی آہ ہو اپنے نکتے۔ تو حسب در رسالت کا پرچم لہر لے لگ جاتا۔ اب
حال پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق غرض و غایت سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ سے واصل
ہو رہی ہے اور جو آپ کے دامن کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ طیب ہو جاتا ہے اور

اس کو پا کر امنی عطا ہو جاتی ہے۔ جو صاحب حضور پر نور کے قدم بقدم موعانے
 اسے مقام دوم عطا ہو جاتا ہے۔ آپ کے دربار پاک پر ایک ہی تقسیم ہو رہی ہے
 عام سے انخاص سے اور خاص الخاص سے۔ آپ کا باب فیض ہر وقت کھلا رہتا
 ہے۔ جو صاحب جس وقت آئے مراد پاتے۔

عاجزوں! یہ بات بھی ضرور جان لینا چاہیے۔ کہ اس واقعہ میں پہلے جتنے
 دلیوں کے بیان ہوئے ہیں ان سے صرف دلی ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ عام
 خاص کا مقام ہی نہیں۔ آپ نے (حضور پر نور) جو بیان دیا ہے۔ اس سے
 عام بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خاص بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خاص الخاص
 بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیان درج ذیل ہے تاکہ اسکی طمانیت قلب عطا ہو
 سبھی اس سے پورا پورا استفادہ اٹھائیں۔ اور ایمان کو تقویت عطا ہو۔

در نقل ہے کہ ایک روز حضرت بائیرید بسطامیؒ اور حضرت ذوالنون مصریؒ
 حضور پر نور امام المسلمین امام اعظم جنتہ اقدس علیہ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر
 ہوئے۔ حضرت امام اعظم نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ تاش کو صاف کر کے اس
 میں شہد بھر لاؤ اور شہد کے اوپر ایک بال رکھ لاؤ۔ خادم حکم بجالایا پھر اپنے
 اپنے احباب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "ان تینوں چیزوں کے متعلق بیان فرمائیے
 حضرت بائیرید بسطامیؒ نے فرمایا کہ "بہشت اس تاش سے زیادہ روشن
 اور صاف ہے۔ اس کی نعمتیں شہد سے زیادہ شیریں ہیں اور پھر اس سے گنہ
 جانا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔"

اس کے بعد حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا کہ اسلام کی حفاظت کرنا یہ اثر

سے زیادہ روشن ہے۔ اہل اسلام ہونا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اسلام کی حفاظت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔

اس کے بعد حضور اہم اعظمؐ نے فرمایا کہ "علم دین اس تاش سے زیادہ روشن ہے۔ مسائل فقہ شہد سے زیادہ شیریں ہیں اور ان کی باریکیاں بال سے زیادہ باریک ہیں" حضور اہم اعظمؐ کے خادم نے فرمایا کہ "مہمانوں کا منہ اس تاش سے زیادہ روشن ہے۔ ان کی خدمت کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ان کا دل خوش رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔"

فقیر بامو (حضرت سلطان العارفين سلطان بامو) فرماتے ہیں کہ بزرگ اسم اللہ اس تاش سے زیادہ روشن ہے۔ لذتِ مشاہدہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ فنا فی اللہ ہونا، وحدانیت میں غرق ہونا، خودی سے نکل آنا اور نفس کو مارتا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔

اس مقام پر حاضر وقت بزرگانِ حضور پر نور شمس العارفين، سلطان حقیقت، سراج اولیا حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم مظللہ العالی فرماتے ہیں کہ:-

اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہنا یہ تاش سے زیادہ روشن اور صاف ہے۔ درود پاک میں ہر وقت مصروف رہنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت پاک رہنا اور محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہر وقت با وضو رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔

"صاحب! یہ بیان لہذا کہ اولیائے کرام کے جو بیان ہیں سب اپنے اپنے مقام پر ارفع اور بلند ہیں۔ جب تک انسان صاحبِ مقام نہ ہو اس مقام کو پا

نہیں سکتا اور نہ اُس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انسان صاحبِ حال سے جب تک صاحبِ حال نہ ہو، اس پر وہ مقامات منکشف نہیں ہوں گے۔ بزرگانِ دین نے جو حال پر بیان دیا ہے اس سے عام بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، خاص بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور خاص الخاص بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ (اگر کسی کے لیے کسی مسئلہ میں الٰہی پیدا ہو تو آپ سے دریافت کر سکتا ہے سب کو اجازت ہے)

مذہبِ بالا ادویات کے جو بیانات ہیں ان میں ظاہر یعنی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے تضاد موجود ہے۔ لیکن حقیقت میں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حاضر وقت بزرگانِ دین نے اس شک و شبہ کو یقین میں بدل دیا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامیؒ نے شریعت کے متعلق بیان دیا حضرت ذوالنون مصریؒ نے طریقت کے متعلق بیان دیا۔ حضورِ امامِ اعظمؒ نے حقیقت کے متعلق بیان کیا۔ آپ کے خادم کا جو بیان ہے، وہ محبت کا مقام ہے۔ حضرت سلطان العارفين سلطان باموگنے نے معرفت کے متعلق بیان کیا۔

حاضر وقت بزرگانِ دین حضرت قبلہ فضل شاہ صاحبِ قطبِ عالمِ مظلّم العالی کا بیان تمام بیانون کا جامع ہے۔ آپ کا بیان شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا جامع ہے۔ دین و دنیا کے تمام علوم اس میں جلوہ گری کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دین و دنیا کی نعمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ورد و شریف میں موجود ہیں۔ انشاء اللہ ان حقائق سے عام، خاص اور خاص الخاص سبھی مستفیع ہوں گے اور انکے ایمان کو اور تقویت نصیب ہوگی۔

ان اوراق میں حضرت سلطان العارفين سلطان باموگنے کے بارہ آیات کی

تشریح بزرگانِ دین نے فرمائی ہے۔ وہ شائع ہو رہی ہے۔ انشاء اللہ آئندہ اشاعت میں کمل ابیات کی شرح شائع کی جائیگی۔

میں بزرگانِ دین کی "ابیاتِ سلطانِ بامو" کی شرح کے مجموعہ کا نام "تشریحاتِ آن بامو" رکھتا ہوں۔ یہ نام مقامی بھی ہے اور تاریخی بھی۔

(تشریحاتِ آن بامو)

۱۳۵۵ھ

آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ ایزدی میں دستِ بدعاہوں کو اللہ تعالیٰ اس مردِ کامل کے فیض سے ساری کائنات کو باریاب کرے۔ بزرگانِ دین کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(آمین ثم آمین)

وَمَا لَوْ فِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ط

خادم الفقراء

احقر حافظ محمد نذیر الاسلام (فاضلِ قادری)

نمبر جنوری ۱۹۹۶ء بمطابق ۱۴ رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ

پرواز جمعۃ المبارک

وِسْبَاحَةٌ بِأَمْرٍ

اللہ تعالیٰ کا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بزرگانِ دین کو راستہ عطا کیا ہے۔

راستہ کیا ہے؟ انسانِ راہِ راست پر ہو تو اُسے راستہ عطا ہو جاتا ہے۔
 راہِ راست کی صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سچا ہے اُس کا کلام بھی سچا ہے۔ انسان بھی سچا ہی ہو گا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے فائدہ اٹھا سکے گا اور پورا فائدہ اٹھا سکیگا۔

عام کائنات فائدہ ضرور پہنچے گا کہ نیک عادت رہیگی ہر مقام پر۔ پہلے بزرگانِ دین نے جو کلام کیا ہے وہی اب حال پر سچ رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اُن کا سچ اللہ تعالیٰ کے محبوبِ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور محبوبِ کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس مقام پر بزرگانِ دین نے بیان دیا ہے کہ عمل کو فضیلت نہیں، سچ کو فضیلت ہے صاحبِ حال اس لیے کلام کرتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا سچ محبوب کی جانب ہو اور غیر کی جانب سے پرہیز کرے۔ جن عاصیوں کا سچ بزرگانِ دین کی طرف ہو گا اُن کا سچ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گا اور جن لوگوں کا سچ بزرگانِ دین کی طرف

نہیں ہوگا ان کا رخ، غیر کی طرف ہوگا

صاحبِ رخ دو ہی ہیں۔ خیر کا یا غیر کا۔ تفسیرِ اتمام ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ جس صاحب نے خیر کو قبول نہ کیا۔ غیر کو اسے لازمی قبول کرنا پڑے گا اور کسی عمل سے رو نہیں کر سکے گا سوائے تسلیم کے۔ اسی لیے فرمایا کہ "مومن کی شان۔ شانِ تسلیم۔"

حال پر جو بزرگانِ دین نے بیان دیا ہے اس بیان سے سچے صاحبِ کرامتِ فائدہ پہنچے گا کہ اسے نیک عادت عطا ہو جائیگی۔ پورا پورا فائدہ برگزیدہ انسان اس وقت اٹھائیکے گا جب انسان صاحبِ حال سے صاحبِ حال ہو جائے گا۔ اب حال پر بزرگانِ دین نے حضرت سلطان العارضین سلطان باہو کی پنجابی ابیات پر بیان دیا ہے۔ جو لوگ حضرت سلطان باہو کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں ان کے لیے، بیانی بزرگانِ دین کا، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ فائدہ مند ہی ثابت ہوتا ہے اور جو صاحبِ عقیدت کے درجے کو ابھی نہیں پہنچے۔ ان کے لیے دو رخ ہیں کہ انہیں اس کلام سے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ چند ایک مقامات پر بزرگانِ دین نے بیان دیا ہے تاکہ ناظرین کا رخ بزرگانِ دین کی طرف رہے، غیر کی طرف نہ ہو۔ جو کچھ حضرت باہو نے فرمایا ہے اگر ایک ایک شعر کا ترجمہ کیا جائے تو کتاب بن سکتی ہے۔ حال پر آنا مختصر ترجمہ کیا ہے تاکہ ناظرین اور سامعین کا تامل کی طرف رخ نہ ہو، حقیقت کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ حال پر بزرگانِ دین جو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کر رہے ہیں۔ صاحبِ حال کا زیر، ذریعہ نقطہ اور حروف کو بی اپنا نہیں۔ اور حال پر جو ان کو عطا

پوری سے وہی عطا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ عام اور خاص پر طبعی ہوتی اور
سنی ہوتی بتاتے ہیں۔

صاحبزادہ اسنو! بزرگان دین پر طبعی ہوتی اور سنی ہوتی بھی بتاتے ہیں اور
جو حال پر ان پر عطا ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ عطا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کتاب اور شنید سے نہیں ہیں۔ کتاب
اور شنید بزرگان دین سے ہے۔ عام شنید کے ساتھ ہے۔ خاص کتاب کے ساتھ
ہے اور خاص النماز ام کتاب کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ام کتاب
اللہ تعالیٰ امی کو عطا فرماتا ہے۔ جتنے نبی اور مرسل حضور پر نور سرور کائنات
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ جزو اور جزو اعظم کی صورت
سے آئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد آئے اور سب کے کل آئے۔
اور تراج انبیاء ہونے کا انعام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور امی ہونے کی صفت
اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو عطا فرمائی۔ یہ صفت ایسی پیاری صفت ہے حضور
پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب حال پر جتنے اولیاء اولی، غوث، قطب اور اہل
موجود ہیں وہ "ام" کے جزو اور جزو اعظم ہوں گے اور جسے اللہ تعالیٰ ام عطا
کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ام کتاب کا علم عطا کرتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امی
ہونے کی صفت قیامت تک جاری رہے گی۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں انسان سمجھنے
نہ پانے۔ ورنہ خود ہوش سے انسان ہی سمجھ سکتا ہے کہ امی سارے علوم
کا معدن کس طرح ہو سکتا ہے۔

صاحبزادہ جان لو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے پاس اللہ تعالیٰ

کے علم سے غیر کچھ بھی نہیں۔ عطا جو حال پر ہو رہی ہے وہ محبوب کے قدم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے محبوب کو کئی علم عطا فرماتا ہے اور وقت وقت پر محبوب کے لیے عطا ہوتی رہتی ہے۔ اس عطا میں خطا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عطا اللہ تعالیٰ کی عطائے اور صاحب عطا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

عطا کیا ہے ؟ محبوب کی ایک صفت

خطا کیا ہے ؟ غیر کی ایک جھٹک

صاحبو! جان لو۔ محبوب کو اللہ تعالیٰ نے سچ عطا کیا۔ غیر جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹے کو جھوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَكْرًا وَاوْكَرًا اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرٌ مَّا كَرِهْتُمْ۔

اس لیے سب صاحبوں کو محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اعلیٰ صفت کو قبول کر لینا چاہیے۔ حرص و ہوا، طمع، غرض و عنایت اور حجابِ علم یہ جتنی صفتیں ہیں یہ غیر کی صفتیں ہیں۔

صاحبو! جان لو! طمع موصیت کا بلا وہ ہے جس گھر میں طمع ہو۔ جتنے غیر علوم ہیں وہ سب آجاتے ہیں اور ساتھ ہی غیر مقامات بھی سب آجاتے ہیں طمع کے تینوں حرف خالی ہیں۔

طمع راس حرف است

وہر تہی است

صاحبو! یاد رکھنا چاہیے کہ خیر و بد پتہ یا ہوا ہے اور خیر کو اللہ تعالیٰ نے

حال کا مرتبہ عطا کیا۔ غیر ماضی ہے اور ماضی کو دعوت دی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سب صاحبزویوں کو خیر کا پہلو عطا فرمائے اور غیر سے دور رکھے اپنی رحمت سے۔ (آمین ثم آمین)

صاحبو! جان لو! ہم جو دیکھ رہے ہیں کثافت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کثافت کی آنکھ ہمیشہ کثافت کو ہی دیکھتی ہے۔ کثافت جھوٹے اور طرافت سچ سے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کثافت کی آنکھ سے دیکھو۔

کثافت کی آنکھ کیلئے؟ محبوب کی ایک اولیٰ صفت۔

صاحبو! اپنے چلنے پھرنے اور کھانے پینے سے اور جسم و جان کو دیکھنے سے کثافت پیدا ہوتی ہے اور کثافت کا علم پیدا ہوتا ہے۔ اور کثافت کا ہی پیالہ اُسے عطا ہوتا ہے۔ وہ صاحب کثیف ہی پیمانے سے پیتا ہے جو بھی پیتا ہے۔ جو صاحب محبوب کی اولیٰ صفت کو دیکھتا ہے اُسے کثافت کا پیالہ عطا ہو جاتا ہے اور وہ اُس پیالے سے تمامی مخلوق کو دیکھتا اور پیتا ہے۔ کثافت کا پیالہ کثافت عطا کرتا ہے اور کثافت کے پیالے سے کثافت عطا ہوتی ہے ہر مقام پر۔ اُسے "کاسہ" عطا ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے باپرواہ ہو جاتا ہے۔ اسی مقام پر حضرت سلطان العارفين سلطان بامومہ فرماتے ہیں

عبد و امرشد کاسہ و تادھ و می لے پرواہی ہو

کی ہو یا جے راتیں جاگیں جے مرشد جاگ نہ لائی ہو

صاحبو! جان لو! رات کے جاگنے کے معنی جاگ کے نکلنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ

کا حکم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔

صاحبو! جاگو، جاگنے والوں کے ساتھ۔ کیونکہ جاگ انسان کو اسی طرح لگ سکتا ہے۔ اور "جاگ" جاگنے والوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اکیلا جو صاحب جاگے گا اس کا ساتھ نہ ہوگا۔ جو صاحب جاگنے والوں کے ساتھ جاگے گا، اس کا ساتھ ہوگا اور وہ جاگنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ جاگنا ایک دعویٰ ہے اور جاگنے والے اس کے شاہد ہیں۔ اس لیے جو صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خوشنودی کے لیے جاگتا ہے، اُسے جاگ لگ جاتی ہے۔ اس مقام پر حضرت میراں تید بھیکھو فرماتے ہیں۔

دھن گھڑی دھن بھاگ ہمارے شوہ ہا پارل بھیکھو دواسے

صاحبو! جو اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہیں ان سے دل جاؤ، دل جاؤ

اور گھل جاؤ۔ اور انہی کی تلاش کرو جو پہلے اللہ تعالیٰ سے واسل ہیں۔

بزرگانِ دین پر ہر وقت تین کلام جلوہ گری کرتے رہتے ہیں۔

پہلا کلام۔ بزرگانِ دین کی ذات کے متعلق ہوتا ہے۔

دوسرا کلام۔ بزرگانِ دین کے حرکات و سکنات اور حسات کے متعلق ہوتا ہے۔

تیسرا کلام۔ غلبہٴ مجال میں ہوتا ہے۔

صاحبو! ہمارا یہ حال ہی نہیں۔ ہمارا یہ مقام ہی نہیں تو ہم کس طرح صاحبِ حال

کے کلام کو جان سکتے ہیں۔ ہمارا پیالہ حادث ہے اور بزرگانِ دین کا علم، علمِ قدیم

ہے۔ پیالہٴ قدیم سے جو چھدک رہا ہو۔ حادثہٴ پیالے میں قدیم کا تصور ہی نہیں آ

سکتا۔ قدیم کیا ہے؟ محبوب کی ایک ادنیٰ صفت (صلی اللہ علیہ وسلم)

عادت کیا ہے؟ اپنے حرکات اور سکناات، دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے
 اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو اپنے حرکات اور سکناات سے محفوظ رکھے اور
 اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک عطا فرماوے اپنی رحمت سے۔ بزرگانِ
 دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)۔

(حضور پرنور) حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم
 (مدظلہ العالی)

۱۳ رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ

مطابق ۶ جنوری ۱۹۶۶ء

ادارہ قادی - نور والوں کا

ڈیرہ - القنبری روڈ

دھرم پورہ - لاہور

تشریحات آیات سلطان باہو

(۱)

ذکر کر سب اُسے ازیرے جاں جان وندانہ فانی ہو
 ذرافانی تنہاں حاصل ہووے چہڑے دستن لاسکافی ہو
 ذرافانی انہاں توں ہو یا جنہاں چکھی عشقہی کافی ہو
 باہو، ہو وا ذکر ستر نیا سر دم یار نہ ملیا بجالی ہو

حضور پر نور سلطان العارفين، سراج اولیا، قطب الاقطاب حضرت فضل شاہ صاحب
 غوث الاعظم بظلمۃ العالی فرماتے ہیں، کہ :-

• ذکر اور فکر دونوں مقام فقر کے بڑے مقام ہیں۔ ذکر کا فکر شاید ہو تو وہ
 ذکر کھل ہو جاتا ہے۔ مگر اس مقام پر یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر با حقیقت ہو تو کھل
 ہے۔ اگر بے حقیقت ہو تو ناکھل ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ با حقیقت
 زندہ ہے اور بے حقیقت مردہ ہے عمل کی کوئی صورت ہو۔

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو نے بے حقیقت کے لیے فرمایا ہے

باحقیقت کے لیے نہیں فرمایا کیونکہ ذکر اور فکر دونوں مقام اولیٰ اور ارفع ہیں۔ بے
 حقیقت کا ذکر اُسے اُسے رہ جاتا ہے اور باحقیقت کا ذکر اُسے (حکم دینے والا)
 کے ساتھ جان لگا دیتا ہے اور اس کے ہر حکم کے سامنے وہ فانی رہتا ہے۔ فدا فانی
 سالک کے ہاتھ آجاتا ہے۔ فنا فی اللہ اس کا مقام ہو جاتا ہے اور عطا ہو جاتا ہے،
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

” فدا فانی تنہا حاصل ہوئے جہڑے و سن لامکانی ہو “

باحقیقت ذکر صلح جب امر پر فدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ہر حکم کے
 سامنے فانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اُسے مقام فنا ہو جاتا ہے۔ پھر اُسے مقام
 ” لامکان “ عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوتے ہوئے ” لامکان “ ہے۔ جو
 اس کا بندہ ہو جاتا ہے وہ بھی ہوتے ہوئے ” لامکان “ ہو جاتا ہے۔

” فدا فانی انہا نون ہویا جنہاں چکھی عشق ہی کافی ہو “

کتاب اور شنید سے عشق جاری ہو جاتا ہے اور وہ ساکن رہتا ہے اور
 باحقیقت انسان کو عشق ایقان عطا ہو جاتا ہے۔ جسے عشق ایقان عطا ہو جاتا
 ہے۔ وہ عشق کی کافی اٹھا لیتا ہے اور عشق کی چاشنی چکھنے لگ جاتا ہے۔

” یا ہو ہو داد کر ستر نیا ہر دم یار نہ لیا جانی ہو “

(مضمون پر نور فضل شاہ صاحب قطب عالم بدظہ العالی فرماتے ہیں) کہ جس مقام
 پر ہو جاری ہو جاتا ہے۔ اس کو اس کا ستر نہ لگ جاتا ہے۔ عام لوگ یار کے دور
 دورے میں رہتے ہیں۔ حقیقتاً یار وہ ہوتا ہے جو ” جانی یار ہو “ دوستی بھی اللہ تعالیٰ
 کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے (الحدیث) جس طرح مضمون پر نور رسول خدا

صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے :-

لَا يُوَدِّعُ أَحَدٌ كَدَّ مَخْتَىٰ أَكْرَدًا أَسْبَأَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (متفق علیہ)

(ترجمہ) تم میں کوئی ایسا مزار نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے والدین، اولاد

اور تمام لوگوں سے پیارا اور محبوب میں (رسول اللہ) نہ ہو جاؤں۔

جانی یا رستے دونوں فائدے پہنچتے ہیں۔ دین کا فائدہ بھی پہنچتا ہے اور دنیا کا بھی

فائدہ پہنچتا ہے۔ اس مقام پر بیان دینا ہے بزرگان دین نے، ساری کائنات میں

ایک ایسا برگزیدہ انسان تلاش کرو جو باحقیقت ہو۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے تم

بھی چاہو اس کے لیے، اپنے لیے مت چاہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے برگزیدہ انسان ہے

پورے ہیں راجب تم ان سے مل جاؤ گے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں،

تمہیں یا ر جانی عطا ہو جائیگا۔ غیر جانا دہیگا خیر کا مقام عطا ہو جائیگا۔

(۲)

قلب جے ہلیا تاں کی ہو یا کیا ہو یا ذکر زیادتی ہو

روحی، قلبی، نفسی، بہتری سبھے راہ حسیدانی ہو

شاہ رگ نہیں نزدیک اوہ رہیں یا یا ر نہ ملیا جانی ہو

ناہم فقیر نہناذا با ہو جہڑے دستیں لا سکافی ہو

حضرت سلطان الغافلین سلطان باہو فرماتے ہیں :-

”قلب جے بیاتوں کی ہو یا کیا ہو یا ذکر زبانی ہو“

حاضر وقت بزرگان دین حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قبلہ عالم مظلوم کی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ :-

”جو صاحب کتاب اور شنید سے لگے رہتے ہیں اکثر وہ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ ”قلب جاری ہو جائے اور راہِ حق کا صدق سے راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ صاحبو! جان لو۔ قلب اور فرقوں میں بھی جاری ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی وغیرہ دیگر غیر مذہبوں اور فرقوں میں بھی قلب جاری ہے اور وہ ”کسی“ جاری ہوتا ہے۔“

دنیا کا اولیا ہو جاتا ہے۔ دین سے دور رہتا ہے اور وہ جو کہے ہوئے لگ جاتا ہے، دنیا کے متعلق۔ ذکر کرنے والا اپنے آپ کو اولیا سمجھتا ہے اور لوگ بھی اسے اولیا جانتے ہیں۔ وہ انسان نفس کی گردان میں آ جاتا ہے۔ اور جس منشا کے لیے انسان آیا ہوا ہے اس سے دور رہتا ہے۔ اس مقام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ ”کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ صرف نماز کا۔“

نماز میں دونوں رکن موجود ہیں، وضو بھی موجود ہے اور سجدہ بھی موجود ہے یہ اور فرقوں میں نہیں ہے۔ زبانی ذکر کرنے والا خواہ قلب سے ہو یا زبان سے ہو بے حقیقت رہتا ہے۔

اس کے اوپر حضور پر نور سلطان الغارین سلطان باموگ نے فرمایا ”روحی، قلبی، خفی، سری سمیتے راہ حیرانی ہو“

وہ صاحب روح کے مقام پر بھی بے حقیقت رہتا ہے۔ قلب کے مقام پر بھی بے حقیقت رہتا ہے۔ ذکرِ خفی کرنے سے بھی بے حقیقت رہتا ہے اور ذکرِ سہری کرنے سے بھی بے حقیقت رہتا ہے۔ ذکر کرنے سے ذکر بے حقیقت رہتا ہے۔ مقصود سے دور رہتا ہے۔ اس لیے حیران رہتا ہے۔ سوائے حیرانی کے اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آتا۔

صاحبو! یہ سب مقام جو حضور سلطان باہو نے بیان کیے ہیں۔ باحقیقت کے لیے ادلی اور ارفع ہیں اور بے حقیقت کے لیے حیرانی اور پریشانی کا باعث ہیں۔ باحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور بے حقیقت اپنے عمل کے ساتھ ہے۔

”شاہِ رگ تھیں نزدیک اوہ رست را بار نہ ملیا جانی ہو“

صاحبو! جان لو! جس اللہ تعالیٰ کی تم تلاش میں ہو وہ تمہارے تم سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک رکھو گے تو تمہیں تمہارا ”یارِ جانی“ مل جائے گا۔

اس مقام پر حضرت سلطان العارفين سلطان باہو اپنی کتاب ”عین الفقر“ میں فرماتے ہیں۔ ”جو شخص کہ معرفت نہیں رکھتا اگرچہ اس نے ہزاروں کتابیں کیوں نہ پڑھی ہوں مگر وہ ابھی سلوک سے ناواقف اور نصوف سے بے خبر ہے

لَا تَحْتِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَسْمِ دِيَا

لکہ حضرت مجتبیٰ شاہ صاحبؒ اسی مقام پر فرماتے ہیں :-

(باقی ماسبقہ پر)

اداس کی زبان اور دل مروہ ہے۔ ایسا صاحب علم جو برابر وار سے زیادہ
 وقعت نہیں رکھتا باوجودیکہ خدائے تعالیٰ گردن کی شہ رگ سے زیادہ نزدیک
 ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَا يَكْفُرُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مَن صَحَّبَ الْمُرِيدَ**
”ہم فقیہ تمہارا نڈا باہو جھڑے وستن لامکانی ہو“

فقر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے
 ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے رہنا۔

اللہ تعالیٰ ”لامکان“ ہے جو صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی معاملہ کرتا
 ہے وہ بھی ”لامکان“ ہو جاتا ہے اور فقرا سے عطا ہو جاتا ہے۔
 فقر کے تین رکن ہیں۔ ف، فاقہ، ق، قناعت
 اور ریاضت

(یقینہ حاشیہ صفحہ)

اک واجب شرط اوب دی ہے ہر روچہ صورت رب ہی ہے

کتے ظاہر کیے چھپیندی ہے منہ آئی بات نہ رہندی ہے

جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے محبت کی اپنی صورت کوئی صورت نہیں رہتی۔

پاکی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور جو پاک ہو جاتا ہے وہ بھی باصفت ہو جاتا ہے جو باصفت ہو جاتا

ہے اس کا اوب واجب ہو جاتا ہے اور انسانوں پر۔ جو اوب کرتا ہے اُسے فلاح عطا ہو جاتی

ہے۔ بلکہ دوسرے مقصود سے دور رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے

(۳)

غوث قطب سب اُڑے اریرے عاشق جان اگیرے ہو
 جہڑی منزل نوں عاشق پہنچے اوتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو
 عاشق وچہ وصال دے سہندے جنہاں لامکانی ڈیرے ہو
 دین قربان تنہا موتوں باہو جنہاں ذات بسیرے ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ :-

”غوث قطب سب اُڑے اریرے عاشق جان اگیرے ہو“

حاضر وقت بزرگان دین حضور پر نور شمس العارفين قبلہ فضل شاہ صاحب

محبوب عالم مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ :-

” غوث اور قطب بڑا بلند مقام ہے۔ حضرت سلطان العارفين سلطان باہو

کو اللہ تعالیٰ نے غوث اور قطب سے بھی بلند مقام عطا کیا تھا۔ غوث اور قطب

درجات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور عاشق درجات والے کے ساتھ تعلق رکھتا

ہے۔ غوث اور قطب کا وہ مقام ہی نہیں جو عاشق کا مقام ہے۔ اس لیے

آگے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں :-

” جہڑی منزل نوں عاشق پہنچے غوث نہ پاندے پھیرے ہو “

جس منزل کو عاشق پہنچتا ہے وہاں غوث اور قطب کا مقام ہی نہیں ہے۔

اور وہاں غوث اور قطب کا پھیرا ہی نہیں ہوتا۔

جس غوث اور قطب کو عاشق ہونے کا مقام عطا ہو جائے اسے بلند مقام

عطا ہو جاتا ہے اور اسی کا پھیرا وہاں منظور ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ (سلطانِ باہر) نے صرف درجات کا بیان کیا ہے۔

”عاشق و چہ وصال دے سہندے جنہاں لامکانی رہیرے ہو“

عاشق درجات والے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لیے ہر وقت وہ وصال میں رہتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا کوئی مکان نہیں رکھتا اسی طرح عاشق کا بھی کوئی مکان ہوتے ہوئے نہیں ہوتا۔ جس گھر میں عاشق ٹھہرے وہ اس کا گھر۔ حقیقتاً عاشق کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سب گھر اور سب گھروں سے اللہ تعالیٰ پاک۔ عاشق بھی اس کے ساتھ ہے اس لیے وہ بھی گھر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اُسے مقامِ لامکان عطا ہو جاتا ہے۔ وصال ہونے لگ جاتا ہے۔ دوری چلی جاتی ہے، حضور کا شرف عطا ہو جاتا ہے ہر مقام پر۔

”دین قربان تنہا نتوں باہو جنہاں ذالوں ذالیرے ہو“

بزرگان دین حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قلندر اعظم مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ :-

”جو محبت اپنی ذات سے گزر جاتا ہے اُس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بسیرا ہو جاتا ہے۔ ایسے برگزیدہ انسانوں پر سے دین پڑھا ہوا اور شاہِ محبت قربان کر دیتا ہے۔“

قربانی کی صورت کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں محبت اپنی کوئی صورت نہیں رکھتا، شرطِ محبت ہی نہیں کہ محبت اپنی کوئی صورت رکھے۔ عاشق کا مقام ہی نہیں ہے کہ عاشق محبوب کے سامنے نہ دینا رکھتا ہے نہ دین۔

دین کیا ہے ؟ محبوب کی ایک صفت ، وضو کی ۔

قربان کیا ہے ؟ دنیا ۔

(۴)

علمیہ یا سمجھ کوئی فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو

تسے ورہیامندی کرے عبادت سے اللہ کنوں بیگانہ ہو

غفلت کنوں کھٹس پر دے دل جاہل بت خانہ ہو

میں قربان تنہا ندے باہو جنہاں ملیا یار یگانہ ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو آ فرماتے ہیں کہ :-

” علمیہ یا سمجھ کوئی فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو ”

حضور پیر نور سراج السالکین مصدر فیض و کرم ، محرم اسرار الہی حضرت

فضل شاہ صاحب مظلہ العالی اس کی توضیح لاثانی فرماتے ہیں کہ :-

حقیقتاً ” علم ” جاننے کو کہتے ہیں ۔ جاننا بغیر ماننے کے نہیں آتا ۔ پہلے

سالک قول کو مانتا ہے پھر اعمال کو مانتا ہے ۔ کیونکہ پہلے قول سے قول کے بعد

اعمال ہے اور اعمال کے بعد علم ہے ۔ اس لیے حضرت سلطان العارفين سلطان باہو

نے اس علم کے متعلق فرمایا ہے جو عمل کے بعد علم عطا ہوتا ہے ۔ جو اس علم

حقیقت کے بغیر راستہ فقر چلے گا وہ نہ اس کے لیے ٹھیک ہوگا اور نہ اس

کے ساتھیوں کے لیے ٹھیک ہوگا ۔ کیونکہ قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ پہلے

قول ہے، قول کے بعد عمل ہے، عمل کے بعد علم ہے اور علم کے بعد اخلاص ہے۔
 پہلے تینوں مقام میں اور اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ کیونکہ
 فقر کے معنی "علم" کے نکلتے ہیں اس لیے حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ :-
 "علمی باہجہ کوئی فقر کما دے کا فر مرے دیوانہ ہو"

سالک اتنا بے خبر ہو جاتا ہے لاعلمی کی وجہ سے کہ وہ کفر میں دیوانہ ہو جاتا
 ہے۔ "قولی فقر" سے نہ خود وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ اس کے ساتھی اس
 سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

فقر کیا ہے؟ محبوب کی صفت۔ جس طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا **الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مَنِي** (الحديث) ترجمہ :- فقر میرا فخر ہے
 اور وہ مجھ سے ہے۔

دوسری حدیث میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-
الْفَقْرُ فَخْرِي فَافْتَخِرْ عَلَى سَائِرِ أَعْمَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ
 "فقر میرا فخر ہے اور میں اپنے فقر سے تمام انبیاء اور رسولوں کے اعمال پر فخر کروں گا۔"
 ان احادیث سے معلوم ہو گیا کہ فقر "علم" کو کہتے ہیں۔ لیکن علم یہ قدم ہے
 جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قدم بقدم۔ نقش قدم جو بزرگان دین
 کے نقش قدم پر چلے گا اسے مقام فقر عطا ہوگا۔
 قدم تمام علوم کا معدن ہے، نقش قدم۔ علم قدم کی صفت ہے۔ بزرگان
 دین کا قدم شریعت ہے۔ طریقت نقش قدم۔ حقیقت قدیم ہے۔ اور معرفت قدم
 کی انتہا ہے اور شریعت قدم کی ابتدا ہے۔

تھے درمیاندمی کرے عبادت ہے اللہ کنوں بیگانہ ہو۔

حضور پر نور حضرت فضل شام صاحب قطب عالم مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ:-

” باحقیقت جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور بے حقیقت جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ باحقیقت کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بے حقیقت کا عمل اپنے لیے ہے یہ عمل اعمالِ نفس ہے، اعمالِ دین نہیں اعمالِ دنیا ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے بیگانہ رہتا ہے۔ باحقیقت بیگانہ رہتا ہے۔ محبت کی شرح یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو بندگی ہے ورنہ نیک عادت ہے۔“

نیک عادت کو خطرہ ہر مقام پر موجود رہتا ہے جس طرح بکرا حلال ہے تکبیر ہو جائے تو طیب ہو جاتا ہے ”جھٹکا“ ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ بکرا ہے تو پاک، لیکن اس پر جو عمل کیا گیا وہ ناپاک عمل کیا گیا اس لیے وہ عمل کی وجہ سے ناپاک ہو گیا۔ پاک پر پاک عمل کیا جائے تو طیب ہو جاتا ہے۔

” غفلت کنوں نہ کھلسن پر سے دل جاہل بت خانہ ہو“

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ بے حقیقت اسے کہتے ہیں جو غفلتوں میں الجھا ہوا ہو اور باحقیقت اسے کہتے ہیں جو نیک کاموں میں سلجھا ہوا ہو۔ جو انسان نیک کاموں میں سلجھ جاتا ہے اسے بزرگانِ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ فرماتے ہیں کیونکہ جتنی نیک صنعتیں ہیں وہ سب محبوب کی صنعتیں ہیں۔ بے حقیقت حقیقت سے دور رہتا ہے۔ جو انسان حقیقت سے دور رہتا ہے اس کا وجود بت خانہ بن جاتا ہے اور جہالت کی جزا اسے عطا ہونے لگ

جاتی ہے۔

جزا کیا ہے؟ اس کے خیالات ایسے کچھ جائیں گے اس کے وجود میں جیسے کہ بت خانہ میں تمام بت لگے ہوئے ہیں وہ اتنا غفلت میں کچھ جاتا ہے غرض و غایت کے بت اسے ستانے لگ جاتے ہیں اور انعام اسے یہ ملتا ہے کہ دین اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور دنیا اس کو آگھرنی ہے پھر وہ سچپتا کر یہ زبان حال سے کہتا ہے

نہ خدا ہی ملا نہ وہ مالِ منعم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہے

”میں قربان نہ ہاؤں سے باہر جنہاں ملیا یار لگانا ہو“

با حقیقت لگانا ہے اور بے حقیقت بے گانا ہے۔ جو صاحب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہتا ہے وہ لگانا ہو جاتا ہے۔ جو صاحب دنیا میں کچھ جاتا ہے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے۔ محبت اپنی مستی کو یار پر قربان کر دیتا ہے اور اپنی تمام صفیوں محبوب پر قربان کر دیتا ہے اور محبوب کی صفیوں اسے عطا ہو جاتی ہیں۔ صاحبو! یہ بڑا لوٹ کا مقام ہے جس صاحب پر یہ مقام آجاتا ہے وہ محبوب کی ہر صفت پر قربان ہو جاتا ہے، قربان ہونے لگ جاتا ہے اور قربان ہوتا رہیگا۔

نوٹ

صاحبو! یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کے معنی مخلوق اللہ نہیں بلکہ دنیا کے معنی غرض و غایت کے نکلنے ہیں۔ غرض و غایت ہو تو دنیا، غرض و غایت اٹھ جائے تو عین دین۔ غرض و غایت ہو تو بے حقیقت۔ غرض و غایت سے پاک ہو تو با حقیقت ہے۔ کوئی انسان غرض و غایت سے پاک نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئی پاک کرنے والا نہ مل جائے۔ وما لوفقی الا باللہ۔

ب بزرگی گفت و بہن رڈھایئے ملئے رَج منہ کالا ہو
 لا الہ والاکہنا منیاں نہیب کی لگ داسالا ہو
 الا اللہ گھر میرے آیا جین آن اٹھایائے پالا ہو
 بھر مالہ خضروں پتیا با ہو آب حیاتی والا ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان با ہو فرماتے ہیں :-

” بزرگی گفت و بہن رڈھایئے ملئے رَج منہ کالا ہو “

حصنور پرنور سلطان حقیقت، مصدق فیض و کرم، معدن جود و سخا حضرت

فضل الدین شام صاحب جان عالم مذللہ العالی حضرت سلطان با ہو کے فرمان کی
 تشریح بے نظیریوں بیان فرماتے ہیں کہ :-

” با حقیقت کی بزرگی فقر کے ساتھ ہے اور علم کے ساتھ ہے۔ وہ پہلے نوٹ

ہو چکا ہے اب حال پر اور عنایت کیا جاتا ہے۔ فقر کیا ہے؟

ف، فاقہ۔ ق، قناعت۔ ر، ریاضت۔

علم کی صورت سے بزرگی ہو تو اللہ تعالیٰ کے علم سے ہو۔ علم الہی۔ فاقہ

شرعی ہے۔ قناعت طریقت ہے اور ریاضت حقیقت ہے۔ کیونکہ رضا حق

سے تعلق رکھتی ہے۔ با حقیقت راضی برضا رہتا ہے ہر مقام پر اور بے حقیقت

چیزیں تلاش کرتا رہتا ہے سب جہاں پر۔ جتنا وہ اسباب اکٹھا کر لیتا ہے

اتنا ہی وہ حساب کتاب کا موجب ہو جاتا ہے۔ جتنا اسباب اللہ تعالیٰ کے لیے

ہوگا وہ حساب سے پاک ہوگا جو دنیا کے لیے ہوگا وہ با حساب ہوگا۔ حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں۔

آں مرو نیست کہ دنیا دارو

گر دارو برائے دوست دارو

محببت کوئی اسباب نہیں رکھتا اپنے لیے ماسوا اللہ کے۔ جو کوئی اسباب نہیں رکھتا وہ حساب سے پاک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب سے پاک ہے۔ اسی لیے محبت بھی کوئی صورت نہیں رکھتا۔ شرط محبت ہی نہیں کہ محبت کوئی صورت رکھے۔

با حقیقت کی بزرگی عظمت رکھتی ہے۔ بے حقیقت کی بزرگی قیل و قال رکھتی ہے۔ حضرت سلطان باہو گئے بے حقیقت کی قیل و قال کے متعلق فرمایا ہے اگر اس قسم کی بزرگی ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ قیل و قال کو وہی ذمائی میں بہا دو۔ کیونکہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں۔ قیل و قال رکھنے والے کو نہ خود کوئی فائدہ پہنچتا ہے ذاتی نہ صفاتی۔ قیل و قال رکھنے والے کو ایک العام ضروری مل جاتا ہے کہ وہ منگیا بن جاتا ہے اور بے حقیقت رہتا ہے۔ با حقیقت داتا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں وہ بانٹنے لگ جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ قال کے ساتھ جو بزرگی تعلق رکھتی ہے اس کا منہ کالا کرو اور اسے وہیہن میں رکھا دو۔ جس صاحب کو حال اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور وہ با حقیقت ہے۔ حقیقت حق سے ہے اور حق حق والوں سے ہے۔

(جو بزرگی انسان کو منگتا بنا دیتی ہے اس کے متعلق حضرت سلطان العارفين سلطان
 باجوہ اپنی کتاب عین الفقر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”وہ فقر جو دنیا کا محتاج بنا دے
 اور اس سے توجہ الی اللہ مطلق نہ ہو، اس فقر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے پناہ مانگی ہے۔ فرمایا نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ الْمَلِكِيِّ اے پروردگار ہم فقر
 ملک سے پناہ مانگتے ہیں۔

فقر ملک - کمر کو توڑنے والا۔ یا کمر کو جھکانے والا جیسا کہ ہر ایک کے آگے
 جھک کر مانگتے ہیں۔ یہ فقر نہیں کیونکہ دنیا میں اس کی محتاجی ہے۔)

” لا اِلٰهَ اِلَّا كُنْهًا مَبْنِيًّا نَدْبِيًّا كِي رَاكٍ وَاَسَالًا هُوَ ”

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے پاک ہو جاتا ہے
 وہ لا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ الا اللہ ہو جاتا ہے۔ لا جو مقام ہے
 وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ بھی لا ہو جاتا ہے۔
 مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور محبوب کی صفت ہے، اس لیے مذہب رجات اور
 اور سالک کا تعلق رجات والے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کا تمام مذہب سے
 اونچا ہو جاتا ہے۔ مذہب کا اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مذہب سے گزر
 جاتا ہے۔

پیارو۔ یہ بھی جان لینا چاہیے اس گزر جانے کی حقیقت یہ ہے کہ مذہب

اُس کا راستہ بن جاتا ہے اور مقصود کا مقام اُسے عطا ہو جاتا ہے۔

عامی لوگوں کا مذہب غرض و غایت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور بے حقیقت

ہوتا ہے۔

خاص لوگوں کا مذہب محبوب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔

اور باحقیقت کا مذہب۔ جو اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ رکھتا ہے۔ بے حقیقت پڑھے ہوئے اور سنے ہوئے پر ہی جواز رہتا ہے۔ اس مقام پر بزرگان دین نے بیان دیا ہے کہ ساری مخلوق پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی تبتلے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی بھی تبتلے ہیں اور جو ان پر عطا ہو رہی ہے حال پر وہ عطا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔

”اللاہ گھر میرے آیا جس آن اٹھا یائے پالا ہو“

جو انسان پاک ہو جاتا ہے، الا اللہ اس کے گھر آ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جو انسان اس کے لیے ہر وقت پاک رہتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ کی صفت عطا ہو جاتی ہے۔ فکر و فاقہ جاتا رہتا ہے۔ ”پالے“ کے معنی ”فکر و فاقہ“ ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب الا اللہ گھر آ جاتا ہے فکر و فاقہ نہیں رہتا۔ دوری چلی جاتی ہے اور حضوری کا مقام عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو دوری سے دور رکھے اور حضوری کا شرف عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ آمین ثم آمین۔

بھر بیالہ خضروں پتیا باہو آب حیاتی والا ہو

حضور پیر نور حضرت قبلہ فضل شاہ صاحب راحت العاشقین مدظلہ العالی

فرماتے ہیں:-

” جو صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے پاک ہو جاتا ہے اُسے پیالہ عطا ہو جاتا ہے اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے با وضو ہو جاتا ہے اُسے ”پیالہ حضرت عطا ہو جاتا ہے۔ پیالے۔ یہ ایسی عطا ہے جس میں خطا نہیں۔ اس لیے یہ پیالہ آب حیاتِ دالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اپنی رحمت سے۔
(آمین ثم آمین)

۴

نہیں فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگا ون ہو
نہیں فقیری و ہندیان ندیاں سکیاں پار لنگا ون ہو
نہیں فقیری وچہ ہوا دے مُصلے پا ٹھہرا ون ہو
فقیری نام تھیندا باسو دلوچہ دوست ٹھہرا ون ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو مذکورہ بیت میں راستہ فقر کے متعلق فرماتے ہیں۔ اس راستہ فقر کی رہبری کے متعلق حاضر وقت بزرگان دین حضور پرنور حضرت فضل شاہ صاحب، سراج عازفاں، سراج کلاماں۔ قطب الاقطاب مدظلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ۱۔
” جلوت کی صورت میں جو لوگ کسی طور پر جنگوں میں اور مخلوق سے علیحدگی میں جلیاں مارتے رہتے ہیں۔ حقیقتاً وہ انسان کے آنے کے منشا سے بے خبر ہیں۔

انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انسان کے آنے کا منشا کیا ہے ؟ وہ کتاب اور شنید
 میں ہمیشہ الجھے رہتے ہیں۔ یہ اور مذہبوں میں بھی موجود ہے۔ جلیاں مارنا یا ہندی
 و دریا سے سوکھا پاز نکال دینا یا کنارے پر لگا دینا یا مصلے کو ہوا میں اڑا دینا یہ
 کبھی ٹھور پورا اور مذہبوں میں بھی موجود ہے۔

اس مقام پر حضرت سلطان باہو اپنی کتاب عین الفقہ میں فرماتے ہیں کہ :-
 " اگرچہ تو حید میں کتنا ہی غرق ہو جائے۔ مگر خلاف شرع ظاہر نہ ہونا چاہیے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَطِيرُ فِي السَّمَاوَاتِ
 أَوْ يَسْتَبِي عَلَى الْمَاءِ وَتَوَكَّ سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِي فَأَضْرِبْهُ بِالْمُغْلِقِ " (اگر
 تو کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا دیکھے اور تجھے معلوم ہو کہ میری سنت پر
 عمل نہیں کرتا تو اُسے جوڑتے مار یعنی اس کی خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ عزت نہیں ہے
 شیطان کو خدا تعالیٰ نے اس سے زیادہ قدرت دی ہے ۔)

۷ نماز دائمی با وقت سپندار کے وقتے نخواہد پس گنہگار
 " نماز ہمیشہ اپنے وقت پر پڑھتا رہ اور جو شخص ایک وقت بھی نہ پڑھے تو وہ گنہگار
 ہے)۔"

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حقیقتاً دین کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ سے پاک رہنا
 اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے با وضو رہنا اور سب قصے فانی ہیں۔
 جلوت میں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا وضو عطا فرمایا۔ حقیقت
 کا وضو عطا فرمایا اور حقیقت کا وضو عطا فرمایا۔ وضو کی صفت اللہ تعالیٰ نے محبوب
 کو عطا فرمائی۔ اودیہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شریعت کی نماز عطا

فرمانی، طریقت کی نماز عطا فرمائی اور حقیقت کی نماز عطا فرمائی۔ اسی لیے حضور پر نور
سورہ کائنات فخر موجودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا
کہ "کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا صرف نماز کا فرق ہے"۔
جلیاں مارنے والے کو، ندی دریا سے سوکھا پار اتارنے والے کو اور سوا
میں مصیبت اڑانے والے کو لوگ اولیا سمجھتے ہیں اور وہ خود ناقص اعمال کی وجہ سے
اپنے آپ کو اولیا سمجھتا ہے۔ نہ خود اس کو جو عمل کر رہا ہے اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔
نہ اس کے ساتھیوں کو پہنچتا ہے۔ ایک انعام ان سب کے ضرور مل جاتا ہے جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کرنے والی ہوتی ہے ان کے راستے میں وہ آڑ بن جاتے ہیں۔ وہ خود مقصود
سے دور ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی مقصود سے دور رکھتے ہیں۔ اس
لیے وہ سب بے مراد ہیں۔ یہ کوئی فقیری نہیں ہے اس قسم کی نیزنگیاں کھانے میں۔
فقیری کی اصل اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو اس سے مانوس
ہو جاتا ہے اُسے خلوت کا انعام مل جاتا ہے فقیری کا، یہ اور مذہبوں میں بھی
ایسا ہو رہا ہے۔ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با وضو ہو جاتا ہے
اُسے خلوت کا انعام مل جاتا ہے فقر کا۔ فقر کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے۔ فاقہ
فاقہ، قناعت اور ریاضت۔ اس لیے بزرگانِ دین نے فرمایا کہ
ساری کائنات کی بنیاد ربیعہ عناصر سے ہے اور بزرگانِ دین کی لیسیم اللہ عشق
سے ہے۔ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے با وضو ہو جاتا ہے۔ محبوب اللہ تعالیٰ
کا دوست ہے۔ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو پا جاتا ہے اُسے
دوست مل جاتا ہے اور دوست دل میں ٹھہرنے لگ جاتا ہے۔

صاحبو! جان لو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوست کے ٹھہرنے کی جگہ ہی
 دل ہے اور دل میں اُسے ٹھہرایا جاتا ہے۔ دوست مل جائے تو دین ہے۔ غیر
 مل جائے تو بے دین ہے اس لیے حضرت باہو نے فرمایا ہے کہ
 ”عمر فقیر نام تنہید اباہو جہڑے دلو چہ دوست ٹھہرون ہو“
 فقیری دوست کے ساتھ ہے اور دوست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ
 سب صاحبوں کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ساتھ عطا فرمائے اپنی رحمت سے
 بزرگان دین کی دعا و برکت سے۔ (آمین ثم آمین)

۷

عاشقاں بکو وضو جو کیتا روز قیامت تائیں ہو
 وچہ وکوع نماز سجودے رنڈے سنج صبا حیں ہو
 ایچھے اوتھے دوہیں جہا نہیں سب فقر دیاں جائیں ہو
 عرش کولوں سے منزل آگے باہو ونج پیا کم تنہا میں ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو و حدائیت کے وضو کے متعلق عاشق

کا مقام بیان کرتے ہیں کہ

”عاشقاں بکو وضو جو کیتا روز قیامت تائیں ہو“

وحدائیت کے وضو کی شرح بسط حضور پرنور، سرتاج عاشقاں

راحت العاشقین حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم مظلوم العالی فرماتے ہیں۔

• وحدانیت کا وضو عمر بھر میں ایک ہوتا ہے۔ وضو کے تین مقام رکھے ہیں بزرگان دین نے، شریعت کی رو سے وضو، طریقت کی رو سے وضو، اور حقیقت کی رو سے وضو۔ جس برگزیدہ انسان کا یہ وضو ہو جاتا ہے قیامت تک اس کا وضو رہتا قائم رہیگا۔ اس مقام پر بیان دیا ہے بزرگان دین نے، جس صاحب کا وحدانیت کا وضو ہو جانا ہے، وہ قیامت کے بعد با وضو اٹھایا جائیگا اور پاک اٹھایا جائیگا اور بزرگان دین کی صف میں سے اٹھایا جائیگا۔“

حضرت سلطان باہو عاشق کی نماز حقیقت کے متعلق فرماتے ہیں۔

”وچہ رکوع نماز سجودے رہندے سنج صبا جیں ہو“

حاضر وقت بزرگان دین حضور پر نور محرم امرار الہی، سرچشمہ رشد و ہدایت،

حضرت فضل شاہ صاحب محبوب عالم مظلوم العالی نماز حقیقت کے متعلق فرماتے ہیں۔

• جس صاحب کا وحدانیت کا وضو ہو جاتا ہے اسے حقیقت کی نماز عطا ہو جاتی

ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نماز شریعت پانچ وقتی، نماز طریقت سات وقتی اور

نماز حقیقت ہر وقتی۔ نماز حقیقت کے متعلق فرماتے ہیں بزرگان دین :-

پیارو! اس نماز میں قعود نہیں ہے، رکوع بھی نہیں ہے اور سجود بھی نہیں

ہے جلوت کی صورت سے۔ پیارو! ہو سب کچھ رہا ہے رکوع بھی موجود ہے،

قعود بھی موجود ہے اور سجود بھی موجود ہے۔

آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشہ دیکھے

ویدہ کور کیا نظر آئے کیا دیکھے

جس صاحب پر ہر وقت یہ غلبہ حال رہیگا اُس کے لیے صبح و شام ایک سو چالیس کی دعا
 کی پاکی یہ ایک دعویٰ ہے۔ دو اس کے شاہد ہیں۔ پہلا شاہد شریعت کا وضو۔ دوسرا
 شاہد طریقت کا وضو۔ جس دعویٰ کے دو شاہد ہوں وہ دعویٰ سچا ثابت ہو جاتا ہے
 اللہ تعالیٰ کے دربار میں اجلوت کی صورت سے بھی اور خلوت کی صورت سے بھی
 حضرت سلطان باموؒ نماز حقیقت کے بعد "فقر کے مقام" کے متعلق فرماتے
 ہیں کہ:-

" اچھے اونٹھے دو ہیں جہاں میں سب فقر دیاں جا میں ہو "

حاضر وقت بزرگان دین قبلہ فضل شاہ صاحب قطب عالم مدظلہ العالی فرماتے

ہیں کہ:-

" جس صاحب کی اس جہان میں جیت ہو جاتی ہے وہ اس جہان میں انعام
 یافتہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں "جا" ملتی ہے اُسے، اور جنت میں جگہ مل جاتی
 ہے اور وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ "

اس کے بعد حضرت سلطان باموؒ عاشق کی منزل کے متعلق فرماتے ہیں:-

" عرش کو لوں ہے منزل آگے باموؒ بیچ پایکم تنہا میں ہو "

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ "عرش اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اور عاشق کا اللہ

سے کام ہے۔ اس لیے عرش سے آگے منزل ہے عاشق کی۔

(۸)

نفل نمازاں کم زمانہ سے روزے صدقہ روٹی ہو
 نکتے دیول سوئی جاوے گھروں جہاں تروٹی ہو
 اچیاں بانگیاں سوئی دیون بیت جنہاں وی کھوٹی ہو
 کی پروا تنہا توں باہو جنہاں گھر وچہ لکھی بوٹی ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو فرماتے ہیں :-

” نفل نمازاں کم زمانہ سے روزے صدقہ روٹی ہو “

حضور پرنور اسراج السالکین، سلطان حقیقت، حضرت فضل شاہ صاحب

جان عالم مدظلہ العالی اس کی تشریح عرفان فرماتے ہیں کہ :-

طَالِبُ الدُّنْيَا، مَخْتَلٌ وَطَالِبُ الْعَقْبَةِ مَوْتِنٌ وَطَالِبُ
 الْمَوْلَى مَدَانٌ۔

(طالب دنیا مختل ہے اور طالب عقبہ مونت ہے اور طالب مولیٰ مدکر ہے)

حضرت باہو کہتے ہیں اس واسطے فرمایا کہ اگر نفل اور نماز عقبی کے لیے ادا کی

جاوے تو یہ کام مردانِ خدا کا نہیں بلکہ عورتوں کا کام ہے۔ کیونکہ حضرت

سلطان باہو مردانِ خدا تھے، اس لیے ان کے سامنے کوئی سبھی عمل عقبہ کا کیا

جائے تو وہ عمل عورتوں کا عمل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مردانِ خدا کوئی سبھی عمل کرے وہ حاصل اللہ تعالیٰ کے

حکم سے ہو رہا ہوتا ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر چل رہے ہیں۔ چلنے والوں کے ساتھ۔

بعض لوگ ایسے روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ کے عہدہ سے روٹی اچھتی سے اچھی مل جاتی ہے اور اکثر اہتمام بھی روزے میں کھانے دانے کا اور مہینوں سے اچھا ہی کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزے کے معنی "رضا" کے ہیں۔ روزے میں رضا کا ایک ایسا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کی بدولت وہ کسی عمل میں نہیں پایا جاتا۔ دو راستے راستہ فقر میں رکھے ہیں۔ "امر اور نہی"۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مومنین ان چیزوں سے منع رہتے ہیں اور جو جائز ہیں ان پر کاربند رہتے ہیں۔

روزوں میں اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے لیے جو جائز ہیں ان سے بھی منع فرمایا ہے۔ محبت کو جائز چیزوں سے بھی منع کیا جائے تو وہ منع رہتا ہے اور راضی برضا رہتا ہے۔ جو ناجائز ہیں وہ پہلے ہی محبت کے لیے منع ہیں اور جو جائز ہیں وہ تو جائز ہی ہیں ان کے لیے۔ جو پہلے جائز ہو چکی ہیں وہ باضی ہیں اور رمضان شریف کا مہینہ اتنا مبارک ہے کہ ماضی کو اللہ تعالیٰ حال عطا فرماتا ہے۔ مومنین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی جائز چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں وہ حال پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے قربان کر دیتا ہے۔

حال کیا ہے؟ روزہ۔ رضا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خوشنودی۔

عرفان حقیقت۔ محبت جو پہلے منع کی ہوئی ہے ان سے منع ہیں اور

جو جائز ہیں ان پر کاربند ہیں۔ حال پر محبوب جو محبت کو حکم دیتا ہے اس پر محبت

کار بند رہتا ہے اور جو اس کے پاس باطنی موجود ہوتا ہے وہ محبوب پر قربان کر دیتا ہے۔۔۔ رمضان شریف کے مہینہ میں وقتی حال عطا ہوتا ہے محبوب سے اور کبھی کبھار بعض بعض مقامات پر رمضان کے متعلق محبوب سے دائمی حال بھی عطا ہو جاتا ہے۔ محب کا جہاں جائز حق موجود ہو اور اس سے فساد برپا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو محب حق سے گزر کر محبوب کی شرع پر راضی برضا رہتا ہے۔ کیونکہ شرطِ محبت ہی نہیں کہ محب اپنی کوئی مصورت رکھے۔ محب نہ خلوت سے کوئی صورت رکھتا ہے اور نہ خلوت سے کوئی صورت رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے محبوب کے حکم کے سامنے۔۔۔ برگزیدہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی برضا رہتے ہیں۔ اور محبوب کے نقش قدم پر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اپنے بندوں پر۔

آخر میں بزرگانِ دین دوبارہ پھر حضرت سلطان باہو کے بیان کی وضاحت کرتے ہیں۔

” روزے صدقہ رومی ہو ”

مومنین اپنی رومی ہیں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا ہے۔ دوسرے بھائیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور مہینوں میں۔ اور رمضان شریف کے مہینہ میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں دوسرے بھائیوں کے لیے۔

” مکے دیول سونی جاوے گھروں جنہاں تر دئی ہو ”

(ماضی وقت) بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ جو حضرت سلطان باہو نے بیان کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے، جو لوگ دنیا کے کام سے بالکل فارغ ہو جاتے

ہیں اور وجود سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ پھر انہیں اور کام نہیں ہوتا اس لیے وہ حج کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں۔ منشا یہ ہے کہ انسان اس وقت فرضیہ حج ادا کرنے کے لیے بجائے جس وقت اور کام بھی اُس کے راستہ میں حائل ہوں۔ ان تمام کاموں کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کی جاوے تو عمل اولیٰ ہے۔ اگر "ترویٹی" کی صورت سے جائے حکم کی ادائیگی تو ضرور ہو جاتی ہے لیکن عمل اولیٰ نہیں ہوتا۔

حضرت سلطان باہو کے حقیقت مؤذن کے متعلق فرماتے ہیں :-

”اچھیاں بالگاں سوئی ویون نیت جنہاں دی کھوئی ہو“

عارضہ وقت بزرگانِ دین حضور پرورد معدنِ جو و وسخا حضرت قبلہ فضل شاہ صاحب

قطب عالم مذہبہ العالی فرماتے ہیں کہ :-

”حضرت سلطان باہو کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ اذان جس وقت پڑھی جاتی

ہے حقیقتاً خیر کی طرف بلا یا جاتا ہے۔ مؤذن کی نیت خیر کی ہو تو وہ جو بلا وہ سے

رہا ہے تمام مخلوق کو، وہ بلا و استیجا ہے اُس کے لیے۔ اگر مؤذن کی نیت کھوٹی

ہو تو وہ جو بلا وہ دے رہا ہے وہ مخلوق کے لیے سچا ہے لیکن اس کے لیے وہ

بلا وہ "کھوٹا" ہے۔ اور لوگوں کے لیے چاہے بلا وہ دینے والا کوئی نیت رکھتا ہو۔

بلا وہ خیر کا ہے اور خیر کا ہی رہے گا۔ اس لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ انسان کی

نیت اس کی حقیقت ہے۔ جس کی نیت کھوٹی ہو جاتی ہے اس کا عمل کھوٹا ہو

جاتا ہے جس کا عمل کھوٹا ہو جاتا ہے اُس کا عقیدہ کھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے

عقیدہ حقیقت ہے ہر مقام پر۔

اب حضرت سلطان باہوؒ باحقیقت کے متعلق فرماتے ہیں:-

”کی پرواہ تنہا تنوں باہوؒ جنہاں گھرو چہ لکھی بونی ہو“

حضرت سلطان باہوؒ کے اس بیان کی شرح لطیف بزرگانِ دین سلطانِ حقیقت، ستراجِ اکلاں حضورِ پرنور حضرت فضل شاہ صاحبِ قطبِ عالم مدظلہ العالی بیان کرتے ہیں کہ:-

”اس مقام پر حضورِ پرنور سرورِ کائنات جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثِ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”انسان کے جسم میں ایک بونی ہے جسے گوشت کا ٹوکڑا فرماتے ہیں۔ حقیقتاً وہ قلب ہے۔ جس کا قلب پاک ہو جاتا ہے اس کا سارا جسم

پاک ہو جاتا ہے۔“

”الْأَوَانُ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْأَوْهَى الْقَلْبُ۔“

(ترجمہ:- انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہے تو تمام جسم درست ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا۔ خبردار وہ ٹکڑا

دل ہے۔)

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ جس کا جسم پاک ہو جاتا ہے وہ انسان اپنی ذات کے لیے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے باپرواہ ہو جاتا ہے جسم ایک گھر ہے اور دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نزو ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جاتا ہے۔

(۹)

جو پاک بن پاک ماہی دے سو پاکی جان پلیستی ہو
 ہک بٹخانے جاوا اصل ہوئے ہک خالی ہے مسیتی ہو
 عشق ہی بانسی تنہاں لیتی جنہاں سرنڈیاں ڈھل نہ کیتی ہو
 ہرگز دوست نہ ملیا انہاں باہو جنہاں ترنی چور نہ کیتی ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو پاکی کے متعلق فرماتے ہیں کہ:-

”جو پاک بن پاک ماہی دے سو پاکی جان پلیستی ہو“

حضور پرنور شمس العارفين قطب الاقطاب حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم

مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ یہ وحدانیت کی پاکی متعلق حضرت سلطان باہو نے بیان کیا ہے۔ پاک کے تین مقام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، پہلی پاکی، شریعت کے ساتھ۔

دوسری پاکی۔ طریقت کے ساتھ اور تیسری پاکی حقیقت کے ساتھ۔

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عطا فرمایا ہے۔

پہلی پاکی جزو ہے، دوسری پاکی جزو اعظم ہے اور تیسری پاکی کل ہے۔

شریعت کا وضو اور نماز پانچ وقتی۔ طریقت کا وضو اور نماز سات وقتی

اور حقیقت کا وضو اور نماز ہر وقتی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا

پانچ وقتی وضو جو ہے یہ نشان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ طریقت

کا وضو سات وقتی اور حقیقت کا وضو ہر وقتی۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت بھی با وضو رہتے تھے۔ سات وقت بھی با وضو رہتے تھے اور ہر وقت بھی با وضو رہتے تھے۔

پیارو! اس مقام پر جان لینا چاہیے۔ یہ صفت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو محبوب کی شریعت کی صفت کو قبول کر لیتا ہے۔ شاہراہ اس کو عطا ہو جاتا ہے اور یہ راستہ سب سے بڑا راستہ ہے۔ سات وقتی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی جو صفت ہے یہ مقام ہے۔ ہر وقتی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی جو صفت ہے یہ نشان ہے۔ جو صاحب تینوں مقاموں پر محبوب کی شان کو پا لیتا ہے وہ با شان ہو جاتا ہے۔ وہ شہنشاہ ہو جاتا ہے صورت کے اعتبار سے۔ اور جو صاحب اللہ تعالیٰ کی پاکی کو قبول کر لیتا ہے اس کی اپنی بات نہیں رہتی۔ جس کی اپنی کوئی بات نہیں رہتی اسے اللہ تعالیٰ اپنی بات عطا کر دیتا ہے اور وہ صاحب سچا بادشاہ ہو جاتا ہے، معنوں کے اعتبار سے۔ اس لیے حضرت سلطان بامو فرماتے ہیں۔ ”کہ وحدانیت کی پاکی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ماہی کو عطا کی ہے۔ جو صاحب محبوب کی جو وضو کی اولے صفت ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی شریعت کی صورت سے قبول کر لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے قول سے۔ اور جو محبوب کی طریقت کی پاکی ہے جو اس پر کار بند رہتا ہے وہ طریقت کی صورت سے منترہ ہو جاتا ہے۔ جو حقیقت کی صورت سے پاکی ہے محبوب کی۔ جو صاحب اسے پا جاتا ہے وہ ”اظہر“ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ جو صاحب محبوب کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاکی کے تمام مقامات عطا کر دیتا ہے محبوب کی بدولت۔ تمام مقامات محبوب کی صورت

سے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو صاحب محبوب کی صورت کے سناٹے اپنی کوئی صورت نہیں رکھتا اسے اللہ تعالیٰ محبوب کی صورت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محبت اپنی کوئی صورت نہیں رکھتا بشرط محبت ہی نہیں کہ محبت اپنی کوئی صورت رکھے۔
 ”ہک بتخانے جا واصل ہوئے ہک خالی رہے مسیتی ہو“

صاحبو! جان لو۔ بزرگان دین سبب نہیں ہیں، وسیلہ اور وصال کا دروازہ ہیں۔ بزرگان دین کو سبب کی آنکھ سے دیکھنے والا دیکھے گا تو وہ بت خانہ ہوگا۔ رب کی آنکھ سے دیکھے گا تو محبوب ہوگا۔ وسیلہ پائے گا وصال کے دروازے سے گزرے گا۔ اور جو وہاں جا بیگا وصال کو پائیگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اللہ تعالیٰ سے واصل ہے، جو صاحب محبوب سے واصل ہو جائیگا وہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جائیگا۔ اس مقام پر بزرگان دین نے بیان دیا ہے۔

صاحبو! جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کو چاہیں تاکہ ہم بھی چاہے جائیں ریاضت کی آنکھ سے دیکھے گا تو وصال پائیگا۔ کثافت کی آنکھ سے دیکھے گا تو بت خانہ پائے گا۔ اس لیے حضرت سلطان بامومہ مخلوق خدا کو واصل باللہ کرنے کے لیے مخاطب فرمایا کہ ”بت خانے جا واصل ہوئے ہک خالی رہے مسیتی ہو“

مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور محبوب کا در ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر اور محبوب کا در جانے والا جان جائے، تو جائے جب اللہ تعالیٰ کے گھر جائے تب محبوب کے در کو پائے۔

پیارو! نماز جماعت مسجد میں ہوتی ہے۔ اس لیے جماعت کی فضیلت اللہ تعالیٰ

نے رکھی ہے۔ وہاں امام بھی موجود ہے اور مقتدی بھی موجود ہیں۔ نماز فرض ہے وضو سنت ہے۔ دو شاہد ہیں نمازیں۔

ایمان اول - ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔

ایمان دوم - اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔

اَنْتَ تَعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ وَاَنْتَ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّكَ يَدْرٰكُ

(تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو

نہیں دیکھتا وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے۔) (الحیث)

یہ صورت جن بومنین کی ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر بن جائے گا اور محبوب

کا ورنہ جا ہیگا۔ اس صورت پر کار بند نہ رہیگا تو مسجد میں خالی آنا جانا ہوگا اور باحقیقت نہ ہوگا۔ نیک عادت رہیگی۔ اعمال کی صورت نہ بن سکے گی اور خالی رہیگی۔

اس لیے حضرت سلطان پاہو نے فرمایا کہ عرش پاک خالی رہے مستی ہو

”عشق با تریا اپنا لیتی جنہاں سر نہییاں ڈھل نہ کیتی ہو“

عشق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہنا۔

عشق کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ غرض و غایت سے

پاک رہنا۔ جو صاحب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہے بازی اُسے مل جاتی ہے

جو صاحب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ غرض و غایت سے پاک ہے وہ اپنے

”سر“ سے گزر جاتا ہے۔ اور وہ اپنے لیے ڈھیل نہیں دیتا راہ خدا میں۔

”سر گزہ دوست نہ ملیا اپناں باہو جنہاں تری چوڑ نہ کیتی ہو“

غرض و غایت کے ساتھ جو لگے رہتے ہیں وہ اپنی تری اور مٹی میں لگے رہتے

ہیں۔ جو ماسوا سے پاک ہو جاتا ہے اُن کی ”تسبیح چوڑی“ ہو جاتی ہے اور دوست
انہیں مل جاتا ہے۔ وہ اپنے دوست سے گزر جاتے ہیں اور جو صاحب دوست سے
گزر جاتا ہے دوست اُسے عطا ہو جاتا ہے۔

نوٹ:-

وحدانیت کی پاکی اللہ تعالیٰ نے پاک ماہی کو عطا کی ہے۔ پاک ماہی اللہ تعالیٰ
سے پاک ہے، جو صاحب اللہ تعالیٰ سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار
میں اس کی پاکی منظور ہو جاتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضو کی صفت
ہے جو صاحب محبوب کی وضو کی صفت کو قبول کر لیتا ہے اس کا وضو منظور ہو جاتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔

ثبوت:- صاحبو! جان لو۔ پاک ہونا ایک دعویٰ ہے۔ جس دعویٰ کا کوئی شاہد
نہ ہو وہ دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوتا۔

اپنے آپ کوئی انسان پاک رہے اور کتنا بھی پاک رہے اس کی پاکی کا جب
بھی نتیجہ نکلے گا۔ پاکی نہ نکلے گا بلکہ پلیدی نکلے گا کیونکہ اس کا کوئی شاہد نہیں۔ جو
صاحب اللہ تعالیٰ سے پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا شاہد ہو جاتا ہے۔
اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با وضو ہو جاتا ہے محبوب اس کا شاہد
ہو جاتا ہے۔

جس مردانِ خدا نے آپ کا وضو کروایا ہے وہ آپ کا شاہد بن جائیگا۔ جس
مردانِ خدا نے آپ کا وضو کروایا ہے اس کا پہلے کسی مردانِ خدا نے وضو کروایا
ہے وہ اس کا شاہد ہے۔ اس مردانِ خدا کا پہلے کسی مردانِ خدا نے وضو کروایا

ہے۔ وہ اس کا شاہد ہے۔ آخر نیتوہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
 اس پاک جماعت کے شاہد بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ شاہد ہے اپنے محبوب کا۔
 یہ پاک بندوں کی ایک لڑی بن جائے گی ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ صراط المستقیم۔
 پاک ماہی جیسے پاک کر دے گا وہ پاک ہو جائیگا اور جس کا وضو کرادیں
 گے اس کا وضو منظور ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔

صاحبو! جان لو۔

دین کی بنیاد پاکی سے ہے

دین کی انتہا نماز سے ہے

نماز میں دونوں رکن موجود ہیں وضو بھی موجود ہے اور سجدہ بھی موجود ہے۔

۱۰

پاک پلید نہ ہونڈے ہرگز توڑے دل سے چہ پلیتی ہو
 وحدت ہے دریا اچھے ہک دل صحیح نہ کیتی ہو
 ہک بت نجا جاو اہل ہوتے ہک پڑھ پڑھ تھکے مسبتی ہو
 فاضل چھوڑ فضیلت بھٹے باسو عشق نمازہاں نیتی ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو فرماتے ہیں :-

”پاک پلید نہ ہونڈے ہرگز توڑے دل سے چہ پلیتی ہو“

حضرت نور محمد بن العارقی، سراج السالکین، نجم الہندی حضرت فضل شاہ صاحب

تطیب عالم بظلمۃ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اپنی ذات سے پاک ہے جو انسان اللہ تعالیٰ

کے لیے پاک ہو جاتا ہے اُسے دائمی پاکی عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاک

ہے۔ جو انسان بھی اس کے لیے پاک ہو جاتا ہے وہ بھی ہر وقت پاک رہتا ہے۔

اور جو صاحب محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے با وضو رہتا ہے۔ وہ طیب

ہو جاتا ہے۔ جو پاک طیب ہو جائے وہ پلیتی کے خطرے سے گزر جاتا ہے۔ اس

کے پلید ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا۔ جس طرح بکرا حلال ہے تکبیر ہو جائے تو

طیب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کسی صورت سے جدا کیا جائے وہ جدا نہیں

ہوتا لیکن رہتا ہے بیگانہ نہیں ہوتا۔ جتنے مقام اُس پر آئیں گے سب جائز

ہی آئیں گے راستہ احسن ہو جاتا ہے دل روشن ہو جاتا ہے جسم محبوب کی کار میں لگ جاتا ہے۔

ہاتھ این ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام مقام پاکی کے اُس پر آ جاتے ہیں وہ ہرگز

پلید ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ پاک پلید نہ ہو۔۔۔

”وحدت دے دیا اچھلے پاک دل صحیح نہ کیتی ہو“

ہر ایک انسان پر وحدت کا مقام آیا ہوا ہے اور ایک ہی کا وعدہ کر کے ان

وحدت سے آیا ہوا ہے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ سے وحدت کا اقرار کیا۔ اس اقرار

پر عمل درآمد بھی اُس کا ہو۔ درآمد کیا ہے ہاں سو اللہ سے پاک۔

جو انسان اللہ سے پاک ہو جاتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ

ایک ہو جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے۔ جو انسان ماسوا میں اچھا ہوا ہو۔ اس کا

دل ایک نہیں ہوتا، نہ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن نہ ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ بیگانہ ہو جائے تو غیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو نے فرمایا: وحدت دے دیا اچھے...

”ہک سبتجانے جاوا صل ہوے ہک پڑھ پڑھ تھکے مسیتی ہو“
 عام لوگ پیرخانہ کو بت خانہ کہتے ہیں۔ خاص لوگ پیرخانہ کو یگانہ کہتے ہیں۔ اور خاص الخاص لوگ پیرخانہ کو شمع کہتے ہیں۔ انعام لینے والے کو پیرانہ کہتے ہیں۔ جو صاحب پروان چڑھ جاتا ہے وہ مراد کو پا جاتا ہے۔ اور اُسے وصال ہو جاتا ہے۔

ہک پڑھ پڑھ تھکے مسیتی ہو
 اس مقام پر بزرگان دین نے بیان دیا ہے کہ
 پڑھنا گنا گنا ہے اور سو اسے حبیب
 جس پڑھیاں شوہ ملے اور پڑھنا کسے نصیب
 جو صاحب کتاب و شہید سے پڑھنا رہیگا۔ مسجد میں کیوں نہ پڑھے۔ وہ
 یگانہ نہیں ہوگا بیگانہ رہیگا۔ بیگانہ جو اپنے عمل سے تھک کر بار جاتا ہے تو یہ
 پڑھنے لگ جاتا ہے۔

نازنیازو کے مل چڑھ کے برسوں دے بازار سے
 ایہ ترہ جات بضاعت جاناں رہیں سمجھے وچہ لڑے
 (مردی غلام رسول)

یہ حقیقت کا عمل اپنی خوشنودی اور نشوونما کے لیے ہوتا ہے۔ اور با حقیقت

کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ بے حقیقت تھک کر باندی ہار جاتا ہے اور
 باحقیقت کی جیت رہتی ہے ہر مقام پر۔ باحقیقت ہر قرار رہتا ہے اور کامیاب
 رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہتا ہے۔

”فاضل چھوڑ فضیلت بیٹھے یا ہو عشق نماز جاں نیتی ہو“
 بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عشق کی شرح یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے پاک
 ہو، اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت عطا ہو جاتی ہے۔ جو فاضل اپنی
 فضیلت سے فاضل ہو وہ اپنی فضیلت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل
 کے سامنے۔ اُس کی نماز اللہ تعالیٰ کی نماز ہوگی اور نیت محبوب سے ہے۔
 نیت کیا ہے؟ محبوب کی وحدت کی ایک صفت (صلی اللہ علیہ وسلم)
 فضیلت کیا ہے؟ نماز اللہ کی۔ عشق کی نماز کے لیے وحدانیت کا
 وضو ہر وقت رہتا ہے۔

صاحبو! اس میں قعود نہیں ہے، رکوع بھی نہیں ہے، اور سجدہ بھی نہیں
 ہے۔ ہر سب کچھ رہا ہے ہر مقام پر ہے

آنکھ والا تیرے جوین کا تماشا دیکھے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

رکوع بھی موجود ہے قعود بھی موجود ہے اور سجدہ بھی موجود ہے عاشق کے لیے
 اور عاشق کے لیے لکھ ہے۔ اس مقام پر حضرت علیؑ صاحب فرماتے ہیں۔
 ”یہ کیا شوہ سے یا بچوں لکھ نہیں“

پرو بکھن والی اکھ نہیں

اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو محبوب کا رخ عطا فرمائے ، دوری سے دور رکھے ۔
(آمین ثم آمین)



ثابت صدق تے قدم اگیر تے تائیں رب لہجیوے ہو
لوں لوں ویوچہ ذکر اللہ واپروم پیا پڑھیوے ہو
ظاہر باطن عین عیانی ہو ہو پیا سینیوے ہو
نام فقیر تنہا نذا با ہو قبر جنہاں دی جیوے ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو فرماتے ہیں کہ

” ثابت صدق تے قدم اگیر تے تائیں رب لہجیوے ہو “

جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ثابت رہے ، صدیق کی اس پر مہر لگ جائے
گی اور قدم اس کا اگیر سے ہو جائیگا ۔ کیونکہ ثابت اور صدق یہ دونوں صدیق کے
مقام ہیں ۔ ہاتھ کی صورت سے مومن ثابت رہتا ہے اور وہ صورت کے اعتبار
سے امین ہو جاتا ہے ۔ یعنی مومن کا ہاتھ امین ہو جاتا ہے اور ثابت رہتا ہے مہر
مقام پر ، ہر گھڑی اہر پل میں ۔ صدیق مونا بزرگان دین کی ایک صفت ہے ۔ جو
صاحب سچا ثابت ہو جاتا ہے اس کا قدم آگے ہو جاتا ہے ۔ جس مقصود کی تلاش
میں ہے وہ اسے مل جاتا ہے ۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ طالب کا مقصود

رَبِّ سِئَمِ نَأْسِهِ وَهَلْ جَانَا سِئَمِ - اللہ تعالیٰ کی تقسیم علم سے ہے اور پالنا بھی علم سے ہے۔ تو جب محبت کو یہ علم عطا ہو جاتا ہے کہ پالنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور تقسیم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے وہ خود جن سے رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی خدائی اس سے چین سے رہتی ہے۔ جسے یہ دو انعام عطا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اُسے مل جاتا ہے وہ انسان یا مقصود ہو جاتا ہے۔

”لَوْ لَوْ دِوَعِجِرَ ذَكَرَ اللّٰهَ وَاسْمِ بِاِطْرَ صِيَوِي سُو“

جو صاحب یا مقصود ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے ”لَوْ لَوْ“ سے توحید ٹپکنے لگ جائے گی اور ایسا برگزیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کا ”لَوْ لَوْ“ اس کا شاہد بن جاتا ہے۔ وہ انسان آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو پرٹھنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔

”ظَاهِرُ بَاطِنِ عَيْنِ عِيَانِي سُو سُو بِاِطْرَ صِيَوِي سُو“
 محبت کا باطن یا سوا سے پاک ہے اور ظاہر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ سے۔

ظاہر کیا ہے بہ محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وضو کی اولے صفت

شریعت کی پینج ویسے۔

محبوب کی شانی صفت، وضو کی طرقت کی۔ ست ویسے۔

ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا ہے ۔

۱۲

زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھ دا کوئی ہو
 جتنے کلمہ دل دا پڑھیے اوتھے جیسے منے نہ ڈھوئی ہو
 دلدا کلمہ عاشق پڑھدے کی جانن یار کلوی ہو
 کلمہ یار (مرشد) پڑھایا ہا تو میں سدا سو یارن ہوئی ہو

حضرت سلطان العارفين سلطان باجو فرماتے ہیں کہ :-

”زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھ دا کوئی ہو“

پیارو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کلمہ رکھا ہے کہ زبان سے کلمہ کہے اور
 دل کلمہ کی تصدیق نہ کرے تو وہ زبانی ہی رہیگا۔ زبان سے بھی کلمہ پڑھنے والے
 کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ ہر مقام اللہ تعالیٰ نے قول ہی کا رکھا ہے، دوسرا مقام
 اعمال کا رکھا ہے اور تیسرا مقام علم کا رکھا ہے۔ علم حقیقی۔ قول کا اعمال شاید
 ہو تو قول سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو انسان زبان سے کہے، دل اس
 کی تصدیق کرے۔ وہ انسان سچا رہتا ہے ہر مقام پر۔ اس کو دین کا بھی فائدہ
 پہنچتا ہے اور دنیا کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ قول سے کہے، دل اس کی تصدیق
 نہ کرے۔ قول اس کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے اور جس سے کیا جائے وہ اس سے

بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ :-

زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل واپڑھہ وا کوئی ہو

حقیقہ کلمہ دل واپڑھہ جیسے اوتھے جیبے ملے نہ ڈھوئی ہو

جس وقت قول سے انسان گزر جاتا ہے تو اعمال شروع ہو جاتا ہے۔ قول کا

زبان کے ساتھ تعلق ہے اور اعمال کا دل کے ساتھ تعلق ہے۔ وہاں اعمال شروع

ہو جاتا ہے۔ اس لیے "جیبے" کا مقام ہی نہیں۔ وہاں "جیب (زبان) کو ڈھوئی

نہیں، اعمال کو ڈھوئی ہے (ڈھوئی - گزر)

"دلدا کلمہ عاشق پڑھدے کی جانن یار کلوئی ہو"

عاشق یار کا کلمہ پڑھتا ہے اور عاشق یار کا محبت سے نام لیتا ہے۔

عاشق محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب، محبوب ہے عاشق کے لیے۔ جہاں

محبت اور محبوب یہ دونوں مدارج اکٹھے ہو جاتیں وہ دو مدارج ہو گئے۔ اور

یار، یار سے مل جاتا ہے۔ جو صاحب بزرگان دین کے راستہ پر چلتے نہیں

ہیں وہ "یار کلوئی" ہیں اور اس کا یار کوئی نہیں۔ اس لیے حضرت سلطان باہو

نے فرمایا کہ عجز "دلدا کلمہ عاشق پڑھدے کی جانن یار کلوئی ہو"

کلمہ یار پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی ہو

کلمہ کا گر جیسے عطا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُسے سدا کا سواگ

عطا ہو جاتا ہے۔

جسے یار عطا ہو جاتا ہے، اُسے کلمہ عطا ہو جاتا ہے۔ جسے کلمہ عطا ہو جاتا ہے وہ پڑھنے لگ جاتا ہے اور اُس کو سدا سو پاک عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کلمہ رکھا ہے کہ ”جب کلمہ پڑھا تا ہے یہاں ہی پڑھا تا ہے۔ اس طرح اُسے سدا کا سہاگ عطا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان یاموگ نے فرمایا کہ۔ ”کلمہ یار پڑھا یا با تو میں.....“

مخزن حقائق

(سوال و جواب)



حضرت صفوی محمد نذیر صاحب کے اوصافِ حسنہ

بیان صاحبزادہ رضا حسین صاحب بلالی و جمالی

(نوٹ :- حضرت صاحبزادہ رضا حسین صاحب حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم مظلومہ العالی کے بڑے صاحبزادہ ہیں۔ آپ کی ولادت ۶ رمضان المبارک کو ہوئی پیارا، پیارا ہی جنم لیتا ہے۔ آپ نے والد ماجدہ کا کئی مہینے دودھ نہیں پیا اور تم ہی روئے۔ آخر آپ کی دادی صاحبہ نے حضور پر نور کو اس طرف متوجہ کیا۔ حضور پر نور کا یہ دور عالمِ جدید کا تھا۔ حضور پر نور نے فرمایا کہ آج سے دودھ پیئے گا۔ آپ اس وقت سے دودھ پینے لگے لیکن صرف افطاری اور سحری کے وقت۔ آپ جوان صالح، اخلاقِ حسنہ کے حامل اور نہایت مہمان نواز ہیں۔ آپ کے حال پر بزرگانِ دین کے دربار سے بلالی اور جمالی ہونے کا خطاب عطا ہے۔ آپ کو حضور پر نور سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ہی ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حضور ہی میں حضور ہی ہوئی۔

اس لیے آپ کے حال پر جو بیان حضرت صفوی صاحب کے اوصافِ حسنہ کے

متعلق ارشاد فرمایا ہے اسے یہاں شامل کیا جاتا ہے۔ (مترجم)

اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا امام کا، شریعت کے لیے۔ امام المسلمین، امام

المومنین، امام العارفين۔ امام شریعت سے، امام طریقت سے اور امام حقیقت سے۔

شریعت اور طریقت راستہ ہے اور عرفان حقیقت ہے۔ حضرت صفوی محمد نذیر

صاحب (اچھرہ شریف - لاہور) امام العارفين ہیں۔ ان کا یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے۔

بزرگانِ دین نے فرمایا۔ ” جو صاحب بیان دیتا ہے، اُس میں وہ صفت موجود ہوتی ہے
 تو بیان دیتا ہے۔ نام اِس کا لیتا ہے جس کی طرف سے صفت آتی ہے۔ با صفت
 کا نام۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انہی کا نام لینا چاہیے کیونکہ یہ صفت اُن کی ہے جس
 وقت با صفت کی صفت جہاں آجاتی ہے، اور جس کے پاس آجاتی ہے وہ انسان
 با صفت ہو جاتا ہے، اسی لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ ” جس پر ایسے نے جس مقام
 کو دیکھ لیا اسے وہی عطا کر دیا جاتا ہے۔“

حضرت صدیقی صاحب اہم العارفین کو بزرگانِ دین سے جو عنایاں تھیں ان
 سب کا نام لے رہے ہیں اور صداقت سے لے رہے ہیں۔ اس لیے کہ سامعین اور
 ناظرین کے سامنے یہ نقشہ رکھا جائے۔ تاکہ جس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کی اور معارف بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو
 صاحب صداقت سے اسے لے گا، صدق اُسے عطا ہو جائیگا کیونکہ بیان کرنے
 والا صدق اور سچا ہے۔

مخزن حقائق

از صوفی محمد زبیر صاحب امام العارفین

حضور پر نور قلندر اعظم سراج اولیا، مدینِ جود و سخا، سلطان العارفین حضرت
فضل شاہ صاحب قطب عالمِ مذللہ العالی سے بندۂ عاصی پر معاصی نے چند دالات پر
استفسار فرمانے کے متعلق عرض کیا۔ آپ نے نہایت ہی خندہ پیشانی سے اپنے خصوصی
عارفانہ انداز میں جامع جوابات فرمائے جنکو احباب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے
اس مخزن حقائق سے یقیناً قارئین حضرات مستفید و مستفیض ہوں گے اور ان کے
ایمان کو تقویت نصیب ہوگی۔

(۱) سوال :- دین اور دنیا میں کیا فرق ہے؟

جواب :- دین اور دنیا میں نہایت لطیف سا فرق ہے۔ اگر دنیا و مافیہا کو اللہ تعالیٰ
کی امانت سمجھ کر اس کی منشا کے مطابق استعمال کیا جائے تو کلہم دین ہے۔ اور اگر
ذاتی ملکیت سمجھ کر اپنی منشا کے مطابق استعمال کیا جائے تو سب کچھ دنیا ہے عمل کی
کوئی صورت نہ ہو۔ دنیا کی جملہ نعمتیں مثلاً علم، ذہانت، دولت و ثروت،
جہاں و جلال، رسوخ و اقتدار عین دین ہیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اسی
کی منشا کے مطابق ان سے کام لیا جائے۔ اور اگر ذاتی ملکیت سمجھ کر اپنی منشا کے مطابق

استعمال کریں تو دنیا میں بے شکیلی۔

صاحبو! خوب جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو این بنا کر بھیجا ہے۔ سب نعمتیں امانت ہیں۔ عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ اس لیے ان سب کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اسی کے منشا کے مطابق ان سے کام لیا جائے۔

(۲) سوال :- نعمت کا شکر یہ کس طرح ادا ہونا چاہیے؟

جواب :- ہر نعمت کا شکر یہ اُس کی نشان اور نوعیت کے مطابق ادا ہونا چاہیے یعنی نعمت کی تقسیم ہونا چاہیے۔ صرف قول کے ذریعہ شکر یہ ادا نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے تو اس کا شکر یہ اس طرح ادا ہوگا کہ اُس کے اتنا دار سے خلق خدا کے حقوق کی حفاظت ہو یا کسی مصیبت سے نجات مل سکے۔

(۳) سوال :- طلبِ صداق سے کیا مراد ہے؟

جواب :- طلبِ صداق کا مطلب یہ ہے کہ تم دوست کو اُسی کے مفاد کے لیے چاہو۔ دوست کو چاہنے میں تمہاری کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ دوست کے ساتھ دوستی کرو دوست کے لیے اپنے لیے ہمت کرو کیونکہ مسلمان کی دوستی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

(۴) سوال :- انسانیت کا معراج کس عمل سے شروع ہوتا ہے؟

جواب :- انسانیت کا معراج مخالفت کی موافقت سے شروع ہوتا ہے۔ دوست کے ساتھ دوستی کرنا یہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ مخالفت کے مطابق رہنا یہ مروت ہے۔

مطابق کے مطابق رہنا یہ شریعت ہے۔

غیر مطابق کے مطابق رہنا یہ طریقت ہے۔

مطابق اور غیر مطابق دونوں حالتوں کو منجانب اللہ جاننا یہ حقیقت ہے

تمام مقاموں پر راضی برضا رہنا یہ معرفت ہے۔

(۵) سوال :- علم حقیقی کب عطا ہوتا ہے؟

جواب :- علم حقیقی اس وقت عطا ہوگا، پہلے شریعت عطا ہوگی اس

کے بعد طریقت عطا ہوگی اس کے بعد حقیقت عطا ہوگی اور اس کے بعد معرفت عطا

ہوگی۔ پہلے سالک کو قول عطا ہوتا ہے اس کے بعد عمل عطا ہوتا ہے اس کے بعد

علم عطا ہوتا ہے۔ عمل جب سچا ثابت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو

اللہ تعالیٰ اس سچے اعمالی کو علم کی آکھ عطا فرمادیتا ہے۔ یہ علم حقیقی ہے۔ اس کے

مقامات کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس تسلیم رضا

کیونکہ مؤمن کی شان انسان تسلیم۔ قول، اعمال اور علم یہ مقام ہیں۔ اخلاص انعام ہے

مصرفت فرمان سے فرمان اللہ تعالیٰ کا۔

فرمان اللہ تعالیٰ کا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں سے

زیادہ انعام عطا کرنا چاہتا ہوں اسے اپنا علم عطا فرماتا ہوں اور اپنے علم کے

سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہوں۔ اس وقت علم حقیقی عطا ہوگا جس وقت اللہ تعالیٰ

اپنے بندے کو عطا کرنا چاہے گا محبوب کی بدولت۔ کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عطا فرمایا ہے۔

قول ماضی ہے۔ قول ماضی کے لیے ماضی ہے، حال کے لیے حال ہے اور مستقبل کے لیے مستقبل ہے۔ علم حقیقی واردات کے بعد ہی عطا ہو گا۔ اس سے قبل علم قیاسی اور ظنی ہے جو کسی بھی حالت میں علم حقیقی نہیں بن سکتا۔

(۶) سوال :- انسان صاحب حال کس طرح بن سکتا ہے ؟

جواب :- انسان صاحب حال اُس وقت ہوتا ہے کہ ماضی کا شکر یہ

ادا کرے۔ حال پر صابر رہے اور مستقبل سے پاک رہے۔ اس پر بیان وہاں سے بزرگان دین نے تمام مخلوق ماضی اور مستقبل میں رہتی ہے۔ جو چلا گیا اس کی یاد میں رہتے ہیں اور جو آنے والا ہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں اور حال سے دور رہتے ہیں۔

حال کیسے ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با وضو رہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیساتھ معاملہ

اللہ تعالیٰ کے لیے رکھو۔ یہ حال ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب قابل ہے۔

حال حقیقت ہے جس نے حال کو تسلیم نہ کیا وہ کبھی بھی صاحب حال نہیں

بن سکتا۔ یعنی سر حقیقت سے آشت نامہ کی صورت سہی یہی ہے کہ جو کیفیت

موجود ہے اس کو حذالی سمجھ کر برضا و رغبت تسلیم کرے تو پھر معنوں کے اعتبار

سے اس نے اللہ تعالیٰ کی پسند کو پسند کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو راز حقیقت

عطا فرمایا۔ پھر وہی صاحب صاحب حال کہلانے کا مستحق ہو جائے گا۔

(۷) سوال :- گناہ کی تشریح فرمائیے ؟

جواب :- ماسوا اللہ کے کسی چیز میں مبتلا ہو جانے کا نام گناہ ہے۔

(۸) سوال - افہام و تفہیم کا احسن طریقہ کیا ہے؟

جواب - طعن و تشنیع سے حدت پیدا ہوتی ہے۔ افہام و تفہیم کے لیے ٹھنڈا ماحول پیدا کرو۔ اگر آپ نے کسی کو کسی قسم کا کوئی طعنہ دے دیا تو اس کے اندر آگ پیدا ہو جائے گی اب اگر آپ نہایت قیمتی بات بھی اس سے کریں گے وہ آگ جو طعنہ سے اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے اس قیمتی بات کو بھی جلا دے گی۔ لہذا افہام و تفہیم کے لیے ٹھنڈا ماحول نہایت ضروری ہے۔ اس مقام پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آنا ٹھنڈا ماحول ہو جس کے لیے بزرگان دین جناب حضور پر نور سلطان العارفین حضرت میاں خدابخش صاحب سراج اولیاء فرماتے ہیں "کہ بیٹیا! فقیر کی زبان نہیں بولتی، عمل بولتا ہے۔" سب سے پہلے جو کام کسی دوست کو کہنا چاہتے ہو۔ صاحبو! آپ پہلے اس کا نمونہ بنو۔ جس وقت آپ میں وہ مقامات پائے جائیں گے۔ ناظر جس وقت حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ آپ کا نمونہ بن جائیگا۔ اس مقام پر بزرگان دین فرماتے

ہیں کہ

کہنا سنا کسب اور سوار سے حبیب

جس اکھیاں تے ملے اوہ اکھنا کسے نصیب

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ "اطیعوا اللہ واطیعوا

اموصول واولی الامر منکم۔ (پ) اللہ تعالیٰ کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم مانو، اور جو تم میں صاحب امر ہے اس کا حکم مانو۔"

صاحبِ امر کا آکھنا (حکم دینا) امر ہے۔ آنکھ والے پر آکھنے (کہنے) کا مقام آتا ہے اور سالک پورا رہتا ہے امر پر اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے سالک کی ہر مقام پر۔

(۹) سوال :- کلام کرتے وقت کسی مخصوص احتیاط کی ہدایت فرمادیں؟
 جواب :- کلام کرتے وقت دوسرے کی فہم و فراست کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔
 مگر نہ اس کے عمل پیرانہ ہونے کی ذمہ داری کلام کنندہ پر ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک بچہ دس سیر وزن اٹھانے کے قابل ہے۔ تو اس پر اس سے نامڈ بوجھ اٹھوانے کی کوشش کرنے والا خود نادان ہوگا اور اگر وہ بچہ دلیر سے زائد وزن نہیں اٹھا سکا تو اس کی ذمہ داری بوجھ لادنے والے پر ہوگی۔
 یہ کہ بچہ پر۔

کلام کرتے وقت دوسرے کی فہم و فراست کو ملحوظ رکھو جس طرح والدین بچے کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے سب سے پہلے شہیر عطا فرمایا اور سالک کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ شرع عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد طریقت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد حقیقت عطا کرتا ہے اور اس کے بعد معرفت عطا کرتا ہے۔

صاحبو! اللہ تعالیٰ نے جہاں سے منع کیا ہے ان سے منع رہنا چاہیے اور

جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں کاربند رہنا چاہیے۔

(۱۰) سوال :- مخالف سے حسن سلوک کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟

جواب :- موجود کی خیر لو اور جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں چلا جائے اس

کے لیے دعائے مغفرت کرو۔

جو چلا جاتا ہے وہ حاضر بھی رہتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو جو صفیتیں عطا کی ہیں اس کو عطا ہو جاتی ہیں۔ وہ صفیتیں موجود رہنے والی ہیں اس لیے وہ انسان بھی معنوں کے اعتبار سے موجود رہتا ہے۔ صفت موجود رہنے والی بھی موجود ہے۔ با صفت کی صفت کو جو صاحب پا جاتا ہے جس کی صفت ہوتی ہے وہ وہیں پایا جاتا ہے جس کی صفت ہو۔ صفت پانے والا جس وقت صفت میں حلول ہو جاتا ہے جس کی صفت ہوتی ہے۔ صفت پانے والا مجسم وہی ہو جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پاک ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے اس انسان کی کثافت کی حقیقی صفیتیں ہوتی ہیں وہ سب معدوم ہو جاتی ہیں اور لطیف عطا ہو جاتی ہیں۔ انسان فانی ہے اللہ تعالیٰ باقی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ فنا سے گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عطا ہو جاتا ہے۔

(۱۱) سوال - کیا برے آدمی سے دور رہنا ہی بہتر ہے؟

جواب - برے آدمی کی بڑی صفت سے الگ رہنا چاہیے۔ لیکن برے کے قریب ہو کر اس کی بڑی صفت سے اس کو بچانا آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ برے کے قریب ہو کر اس پر اپنے اخلاقِ حسنہ کا پیر تو ڈال کر اس کو بُرائی سے متنفر کر کے راہِ راست پر نہ لاسکے تو آپ مقصود سے دور رہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ جو ابدہ ہوں گے۔

(۱۲) سوال - شرکِ خفی کیا ہے؟

جواب۔ مبتدب کی بجائے کسی سبب پر انحصار کرنے کو شرکِ خفی کہتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں کسی سبب پر انحصار کر بیٹھنا یہ سخت نادانی ہے۔ انحصار کے قابل تو وہ ذاتِ وحدہ لا شریک ہی ہے۔
صاحبو! اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ رکھو کے مخلوق اللہ سے، تو شرک سے پاک رہو گے۔ اگر معرض و غایت سے مخلوق اللہ سے معاملہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکِ خفی ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ شرکِ جلی ہو گا۔

جس سبب کا نتیجہ رب ہو وہ سببِ کامل ہے جس سبب کا نتیجہ دنیا ہو وہ سببِ ناقص ہے۔ بزرگانِ دین سبب نہیں ہیں وسیلہ اور وسائل کا دروازہ ہیں۔ اور کوئی راستہ ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ ساری کائنات کی بسم اللہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور دین کی بنیاد بزرگانِ دین سے ہے۔
میرے مشفق دوستو! بندہ نے حضور پر نور قلندر اعظم کے جوابات جو گاہے بگاھے بندہ کی طرف سے کیے گئے سوالات کے متعلق تھے۔ اس لیے احباب کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ ان جو امریںوں سے جو حقیقتاً محزون حقائق ہیں آپ کے قلوب میں حقائق کی روشنی پیدا ہو سکے۔ بندہ کو یہ لافانی خزانہ صرف فیضانِ صحبت سے ہی نصیب ہوا ہے۔ جس کے مقابلہ میں حقیقتاً فانی اشیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔

خداوندِ ماجد سرِ پانچ غفلت کو مع اپنے جملہ احباب کے ان حقائق سے کما حقہ متعارف فرما دے تاکہ پودہ ایمان تقویت پکڑ کر بار آور ہونے کے

قابل ہو سکے۔

یا اللہ اپنے اس محبوب کو جس طرح تو نے اپنے اسرار پر معنی سے مخلوق اللہ
کو متعارف کرانے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی ان اسرار کو سمجھنے
اور سہنے کی توفیق عطا فرما۔ (آمین ثم آمین)

”مجھز نذیر اچھرو دی“

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

پس (اے مجھ کو) بشارت دے دو ان لوگوں کو جو سنیے سنیے اور سب سے بہتر بات کو چن لیں۔

بات (قول) سنیں اور اس کے بہتر پر چلیں۔ (پتا الزمر)

فائل اولیٰ

100

ارشادات

حضور پر نور شمس العارفین، سراج السائکین، مصدر فقیہ کرم،
نجم الہدیٰ، سلطان حقیقت، پیر مہاں، سر چشمہ رشد و ہدایت، پیار بیگیاں، معدن جوہر و سجا،
محمم امیر الہی، سر چشمہ الودار الہی، سراج اولیا، سراج عارفان، سراج
کاملاں، سراج المکملان، غوث النس و جان، قطب مکان و لامکان، قطب الاقطاب،
غوث الاعظم، قلندر اعظم حضرت فضل شاہ صاحب تہنشاہ قطب عالم، سری سقراطی

مترجم

دعا فقط محمد احمد رضا، نذیر الاسلام قاضی قادری



سکسہ سید فاکر